

حاکم  
۲۶

گزارہ اور نثار فرمان قوسوں کے پنج نام پر

# الہامی افسانے

ترتبی احمد خان



Musique 24

1. 2. 3.



انه لقول فصل وما هو بالهزل

# البرق والفتنة

مرتضى احمد خان

ابلاغ اردو بازار، لاہور

ابلاغ

موضوع: قصص قرآنی

84223

الہامی افسانے

اشاعت اول: ۱۹۲۸ء ----- تجدید اشاعت: ۲۰۰۰ء

مدون و مرتب	_____	مرتضیٰ احمد خان
نظر ثانی	_____	کلیم نشتر
ناشر	_____	محمود عاصم
چیف ایگزیکٹو	_____	محمد جمیل انبی خان
کمپیوٹر کمپوزنگ	_____	کامران ہاشمی
طابع	_____	نیشنل پرنٹرز - لاہور
سرورق	_____	منور

قیمت : -/۱۵۰ روپے

یکے از مطبوعات:

ابلاغ ○ اُردو بازار - لاہور



## فہرست عنوانات

7	1- بیباچہ
23	2- خون ناحق کا پہلا قطرہ
34	3- بت شکن
44	4- تعمیر کعبہ
50	5- قربانی کی پہلی عید
54	6- برادر فروشی
64	7- فرشتے کا امتحان
74	8- کرشمہ قدرت
81	9- آوارہ وطن مسافر
93	10- ملکہ سبا
105	11- قید ظلمات

112	-12	طوفان آب
121	-13	طوفان باد
126	-14	خدائی قبر کی بجلی
132	-15	مطر شدید
139	-16	زلزلہ
143	-17	آل فرعون کی غرقابی
163	-18	سیل عرم
168	-19	یروشلم کی بربادی
185	-20	اباہیل کا ہجوم عام
190	-21	راہ نجات

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### ویباچہ

----- (۱) -----

وَکَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ  
الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهٖ فَاُوَدِّكَ  
وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ  
وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٌ لِّلْمُتَوَمِّينَ  
(سورۃ ہود پارہ ۱۲)

اے محمد! ہم نے پیغمبروں کے حالات  
میں سے جتنے قصے تیرے سامنے بیان  
کئے ہیں۔ ان سب کا مدعا یہ ہے کہ  
تیرے دل کی ڈھارس بندھے۔ علاوہ  
بریں ان میں تیرے لئے حق اور  
مسلمانوں کیلئے نصیحت و ذکر بھی ہے۔

افسانہ کسی زبان کے لٹریچر کی وہ مرغوب، دل پسند اور موثر صنف ہے  
جو قوم کے اخلاق، عادات، رسوم، معاشرت اور تصورات کا آئینہ ہوتی ہے اور  
افراد قوم کی سیرتوں پر اثر ڈالتی ہے۔ شعراظہار خیالات و جذبات کا موثر ترین  
اور لطیف ترین آرٹ تصور کیا جاتا ہے، لیکن افسانہ انسان کے طبائع پر  
غیر محسوس اثر ڈالتا ہے اور اس کا کریکٹر بنانے یا بگاڑنے کا موجب بنتا ہے۔  
شعرا انسان کے خیالات میں بلندی پیدا کرتا ہے، جذبات کو ابھارتا ہے اور رُوح  
کے اندر ایک خاص قسم کا اہتراز پیدا کر دیتا ہے۔ افسانہ خیالات کے ترفع،  
جذبات کے اشتعال اور رُوح کے اہتراز کے ساتھ ہی انسان کے قلب کی

گہرائیوں میں اتر کر اس کی سیرت پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ قصص و حکایات، افسانوں اور داستانوں کی اثر آفرینی اور عبرت آموزی ایک ایسی حقیقت ثابتہ ہے جس کی اہمیت کو دنیا کی تمام قومیں ہر وقت تسلیم کرتی آئی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف ادوار و ازمناہ میں داستان گوئی کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔ تاہم اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کے لٹریچر میں یہ صنف ابتداء ہی سے پائی جاتی ہے اور اسے ہمیشہ ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ انسان کی طبیعت نے شاعری، موسیقی، مصوری، رنگین بیانی، افسانہ نگاری اور کئی قسم کے فنونِ لطیفہ محض اس دنیا کی کلفتوں اور مشقتوں سے کنارہ کش ہو کر آرام و سکون کے چند لمحات گزارنے کی خاطر اختراع کئے۔ تاہم زندہ اور مردہ قوموں کے فنونِ لطیفہ میں ایک نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ زندہ قومیں بھی تفریح و تسکینِ روحانی کی خاطر فنونِ لطیفہ کو استعمال کرتی ہیں لیکن ان کے استعمال کا طریق ان قوموں کے طریق سے بالکل مختلف ہوتا ہے جن کے قوائے عملی زنگ آلود ہو چکے ہوں۔ زندہ قومیں فنونِ لطیفہ کو بھی اپنی ترقی، اپنی اصلاح اور اپنی قوت کے استحکام کے لئے استعمال کرتی ہیں اور اپنے نوجوانوں کو ان کے ذریعہ سے صحیح خیالات، بلند عزائم اور ذوقِ عمل سے شناسا کراتی ہیں۔ مردہ قومیں شعر کی گونا گوں و لفریبیوں، موسیقی کی گتوں، مصوری کی لکیروں اور ادب کی رنگین بیانیوں ہی میں غرق ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہی تفاوت بین زندہ اور مردہ قوموں کے افسانوں اور ان کے انداز بیان میں بھی پایا جاتا ہے۔ مردہ قوموں کے افسانے فن کی لطافت و عریانی کے لحاظ سے خواہ کتنے ہی قابلِ تحسین و داد کیوں نہ ہوں لیکن ان میں وہ سبق آموزی اور حیات افروزی نہیں ہوتی جو زندہ اقوام کی داستانوں اور ان کے انداز بیان میں



پائی جاتی ہے۔

قرآن کریم میں، جو زندگی کے ہر شعبہ میں ملتِ اسلامیہ کی ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے ادب کی یہ صنف، یعنی افسانہ بہت نمایاں صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس میں انبیاء و صلحاء کے لبریز حقائق حالات و واقعات اور نافرمان اور گمراہ قوموں کی عبرت آموز داستانیں چھوٹے چھوٹے قصوں کی صورت میں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ خواہ مخواہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ یہی بات تھی جس نے میرے دل میں قصص قرآنی پر اس نئے پہلو سے غور کرنے کا شوق پیدا کیا۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھا تو ان داستانوں کے اندر مجھے زندگی کے ایسے ایسے حقائق و غوامض اور اسرار و رموز نظر آئے جو انسان کے لئے دائمی حیثیت سے دلیل راہ تھے۔ پھر قرآنِ حکیم کے مخصوص بلیغ اور جامع اندازِ بیان پر نظر گئی تو معلوم ہوا کہ ایک ایک لفظ کے اندر ادب اور رنگین بیانی کے وہ کمالات پوشیدہ ہیں، جن تک انسان کی نظریں مدتِ ہائے مدید کے بعد پہنچیں گی۔ ان تمام باتوں کے پیشِ نظر میں نے تہیہ کر لیا کہ ان الہامی افسانوں کو ادبِ اُردو کے جامہ میں قارئین کے سامنے پیش کروں اور ان حقائق کو اندازِ بیان کے اس سانچے میں ڈھالوں جو آج کل عام طور پر مقبول و دل پسند سمجھا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اُردو دان حضرات و احباب جو عربی زبان اور اس کی لطافت و شیرینی کا حظ حاصل کرنے سے محروم ہیں، ان الہامی حقائق سے متمتع ہو سکیں اور جس حد تک اس ہیج میسرز کے امکان میں ہو، ان میں وہی دلچسپی اور اثر قائم رکھنے کی سعی کی جائے جو قرآنِ کریم کے اندازِ بیان میں پایا جاتا ہے۔

قرآنِ حکیم کے ایک ایک لفظ پر مختلف پہلوؤں سے تفکر و تدبیر کرنے کی ضرورت ہے اور انسان اپنے تمام علمی و ادبی کمالات کے باوجود جس قدر

کاوش و محنت کے ساتھ اس پر تفکر و تدبیر کرنے گا، اس پر حقائق و اسرار کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور بالآخر اسے یہی کہتے بن آئے گی:-  
 لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا نِكَلِمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ  
 كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (کف)

ان ہی افسانوں کو لے لیجئے اور ان پر حیاتِ انسانی کے مختلف شعبوں، انسان کی تمدنی و معاشرتی ضروریات، اس کی سیاسی و اجتماعی زندگی، اس کی انفرادی اور ذاتی سیرت کی صالحات و سیئات، اس کی ممکنات مضمیر کے نشو و ارتقاء، غرض جس پہلو سے ممکن ہو ان پر غور کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان داستانوں کے بیان کرنے میں انسان کے لئے دائمی رہنمائی اور عبرت آموزی کے کیسے کیسے سامان فراہم کر دیئے ہیں اور یہ قسطے حیاتِ انسانی کے تمام پہلوؤں پر کس قدر حاوی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اربابِ فکر مختلف نقطہ ہائے نگاہ سے کلامِ زبانی پر فکر و تدبیر کریں اور ان حقائقِ مضمیر کو انسان کے سامنے لائیں جو ان بلیغ الفاظ کے کوزوں میں دریاؤں کی طرح بند کر دیئے گئے ہیں۔ قرآنِ کریم کے اندر جو قسطے بیان کئے گئے ہیں ان میں حشو و زوائد کا نام تک نہیں۔ محض مفید مطلب پہلوؤں کو کمال بلاغت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ قسطے قید مکانی و قید زمانی سے آزاد ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ واقعات کب اور کس جگہ ظہور پذیر ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم کا فیضان مکانیت کے اندر محدود نہیں اور نہ زمان اور وقت کے ساتھ مختص ہے۔ ان سے ہر شخص خواہ وہ کرۂ زمین کے کسی حصہ پر آباد ہو، کسی دور میں زندگی بسر کرے۔ یکساں طور پر عبرت اور سبق حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے اور حقائق و رموز سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ آج بھی بنی نوع انسان کو تسخیرِ فطرت و کاہشِ اسرار

قدرت کے وہی مسائل درپیش ہیں جو آدم (علیہ السلام) کو اس کرۂ ارض پر آباد ہونے کے وقت پیش آرہے تھے، آج بھی انسان کی جدوجہد اسی زور اور شدت کے ساتھ جاری ہے، جس سے اولاد آدم نے اسے شروع کیا تھا۔ آج بھی اس دُنیا میں اور اس کے انسانوں میں ہابیلی اور قابیلی خصائص اسی طرح برسرِ پیکار ہیں جس طرح آدم کے دو بیٹوں میں ظاہر ہوئے۔ آج بھی دُنیا کو ابراہیم جیسے بت شکنوں کی ضرورت ہے اور انسان مسلک ابراہیمی کو شمعِ راہ بنانے کے لئے ایسا ہی محتاج ہے جیسا کہ نمرود کے زمانہ میں تھا، اور آج بھی خدا کے نافرمان بندوں میں کج بحثی اور ہٹ دھرمی کے وہی خصائص موجود ہیں جو حضرت ابراہیم کی مشکلات کا موجب ہوئے تھے۔

اُسوہ یوسفی اور سیرت موسوی میں زندگی کے غیر معمولی حوادث و واقعات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے اور مصائب و آلام کو صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کرنے کے جو سبق دیئے گئے ہیں وہ دائمی حیثیت سے انسان کے لئے مفید ہیں۔ عزم اور صبر و استقلال سیرت انسانی کی وہ خوبیاں ہیں جو ہمیشہ کامرانی و سرفرازی پر منتج ہوتی ہیں۔ برادرانِ یوسف کا سلوک آج بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی ہے جو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اختیار کیا تھا۔ اس لئے انسان کو یہ تعلیم دینا کس قدر ضروری ہے کہ عفو و درگزر میں اس کے لئے ایک عظیم الشان فتح ہے۔

ضبط نفس اور تحفظ امانت کے اوصاف ضروری پیدا کرنے کے لئے آج بھی اسی شمعِ ہدایت کے کسبِ ضیا کی ضرورت ہے جو آج سے ہزارہا سال پیشتر عزیز مصر کے گھر روشن ہوئی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قصہ میں اغیار کی غلامی کی ذلتوں اور قوائے قدرت کی نیرنگیوں میں انسان کے لئے ایک درسِ عبرت

ہے جو ہمیشہ اس کے حوصلوں کو بلند رکھے گا۔ اس میں محکوم اقوام کو یہ بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات قدرت کی مخفی قوتیں دشمن ہی کے ہاتھوں دوست کی پرورش و تربیت کا اہتمام کر دیا کرتی ہیں۔ اس لئے حکام وقت کے ظلم و جور ان کی طاقت و قوت اور اس کی سخت گیریوں سے مرعوب ہو کر رحمت خداوندی کی طرف سے ہرگز ناپوس نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ترک وطن کے قصہ میں انسان کے استقلال، اس کی اولوالعزمی اور غربت و آوارہ وطنی کے مصائب میں مقابلہ کی ہمت کے اسباق ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلنے والوں کی راہ میں خیر و برکت خوش آمدید کہنے کے لئے منتظر کھڑی ہوتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے قصے میں تسخیر قوائے فطرت اور آسمانی حکومت یعنی خلافت کے مقاصد بیان کئے گئے ہیں جو اسلامی حکومتوں اور مسلمان تاجداروں کے لئے درس حیات ہیں۔ اس قصہ میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کا منہائے نظر قوائے فطرت یعنی ماسوی اللہ کی تسخیر اور اعلائے کلمتہ الحق ہے۔ مزید برآں اس قصہ میں تبلیغ و ارشاد کے طریقہ پر بھی نہایت بلیغ اشارات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی خاطر کفار کے ہر قسم کے غرور و تکبر کو توڑنا کس قدر ضروری ہے چنانچہ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے تمول، جاہ و جلال اور دانشمندی کے بت جن پر اسے ناز تھا ایک ایک کر کے توڑے اور ازاں بعد اس پر جبر نہیں کیا بلکہ دلائل کے ذریعہ سے ایمان کی تلقین کی۔

حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں ان مصلحین قومی کے لئے درس عبرت ہے جو اپنی مساعی کو بے ثمر و بے نتیجہ دیکھ کر بد دل ہو جاتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اصلاح قوم کا علم بلند کرنے والے اگر صبر

واستقلال کا دامن چھوڑ دیں گے تو ان کے لئے قید ظلمات کی سرزنش اور وعید طیار ہے۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کی قربانی کے تذکرہ میں رضائے الہی کے اس مقام بلند کو حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے جہاں پہنچ کر ہر مومن بے اختیار پکار اٹھتا ہے۔ اِنَّ صَلَاتِنِیْ وَنُسُکِیْ وَ مَعِیَا وَ مِمَّا تَنِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (الآیت)

ان کے علاوہ ان قصوں میں اور بھی کئی غیر مرئی اور غیر محسوس حسنت و برکات ہیں جن تک اس ہیچ میسرز کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ یہ تمام حقائق علم انسانی کی ترقی کے ساتھ ساتھ منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ان کے غیر محسوس اثر کو آج ہر قلب سلیم اسی طرح قبول کر سکتا ہے جس طرح آئندہ زمانہ کے عالم کریں گے یا گذشتہ زمانہ کے عارف کرتے چلے آئے ہیں۔

ان تمام قصص کی مرکزی تعلیم ایمان اور توحید ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ نوع انسانی کی نجات کا راز اسی ایک نقطہ میں مرکوز ہے جب تک انسان اس مرکز کو چھوڑ کر ادھر ادھر ٹاٹک ٹوٹیاں مارتا پھرتا ہے اس کے سامنے ہر قسم کی مشکلات کے انبار لگے رہیں گے۔

کتاب کے ابتدائی حصہ میں صرف وہی افسانے درج کئے گئے ہیں جو متذکرۃ الصدر انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان کی اجتماعی زندگی کے متعلق جن گم کردہ راہ اور نافرمان قوموں کے قصص قرآن حکیم میں مذکور ہوئے ہیں وہ دوسرے حصہ میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔

----- (۲) -----

”الہامی افسانے“ کے ابتدائی حصہ میں صرف وہ قصص و واقعات قلمبند کئے گئے ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کی انفرادی زندگیوں کے متعلق قرآن حکیم میں مذکور ہیں، اگلے صفحات میں ان قصص قرآنی کو اُردو زبان کے ادبی پیرایہ میں سپردِ قسط کیا گیا ہے جن میں پروردگار عالم نے نوع بشر کو اجتماعی زندگی کے اسرار و رموز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان اقوام و ملل کے عبرت انگیز واقعات اور ہولناک عواقب بیان فرمائے ہیں جو احکام خداوندی سے سرکشی کرنے اور انبیائے کرام علیہم السلام کی بتائی ہوئی صراطِ مستقیم کو چھوڑنے کے باعث ایسی فنا ہوئیں کہ ایک لرزہ خیز داستانِ عبرت کے سوا ان کا کوئی نام و نشان صفحہ ہستی پر باقی نہ رہ سکا۔

قرآن حکیم نوع انسانی کو اپنا مخاطب بنا کر بار بار کہتا ہے کہ ان قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پر غور کرو جو تم سے پہلے سطحِ ارضی پر آباد ہوئیں، جنہوں نے اپنی جدوجہد سے تمدن و عمران کی سرچشماں عمارتیں تعمیر کیں اور اپنی ترقیات کو مختلف شعبوں میں معراجِ کمال تک پہنچا کر اپنے دنیوی جاہ و جلال کو پائیدار بنانے کی کوششیں کیں لیکن وہ سب کی سب اپنی بدکرداریوں کے پاداش میں لقمہ نہنگ اجل ہو گئیں۔ اپنے عصیان و طغیان کے باعث فنا کے گھاٹ پار اتر گئیں کس لئے؟ اس لئے کہ ان کے تمدن و عمران کی اساس دُرست نہ تھی وہ اپنی ہنگامی کامیابیوں اور کامرائیوں پر اس قدر مغرور ہو گئیں کہ انہوں نے خدائے جلیل کی قدرتِ مطلقہ و کاملہ کو ہیچ سمجھنا شروع کر دیا، اس کا صریح انکار کیا، اُس کے فرامین سے جان بوجھ کر سرکشی اور بہر تابی کرنے کے جرم کی مرتکب ہوئیں اور کائنات کے اس انتظام کو جو نوع انسانی

کے فائدہ کے لئے عامل و نافذ ہے اَرْبَابٌ مِّنْ ذُوْنِ اللّٰهِ کی طرف منسوب کیا جو خود انہی کے اوہام و ظنون نے اپنی خواہشات کے مطابق تراش رکھے تھے۔

ان قصص میں جو اقوام سابقہ کے متعلق قرآن حکیم میں آئے ہیں ان کو اس حقیقت کبریٰ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب کوئی قوم خالق ارض و سما کی محیط و مقدرِ قُدْرَتِ کاملہ کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے اور اپنے عروج کو اپنی ہی کوششوں اور محنتوں کا ثمر سمجھ کر خدائے جلیل کے ساتھ دوسری طاقتوں کو شریک بننے لگتی ہے یا اس کی ہستی کا انکار کرتی ہے تو پروردگار عالم کی قُدْرَتِ کاملہ اپنی بی شمار مخفی قوتوں میں کسی قوت کو یا کائنات ارضی و سماوی کے اُن گنت عوامل عنصری میں سے کسی عامل کو اس قوم کی سرزنش کے لئے مامور کر دیتی ہے جس کے مقابلہ میں انسان کے تمدن کی تمام پائیداریاں ہیچ اور اس کی ہر قسم کی تمدنی اور عمرانی ترقیاں بے بس ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ملل قدیمہ کی حیرت انگیز ترقیات کی تاریخ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انہوں نے تمدن کی خاطر فاطر ہستی کی قُدْرَتِ کاملہ و مطلقہ سے روگردانی اور سرکشی کر کے سطح ارضی پر اپنی ہیبت و جبروت کا سکہ جمانے کی کوشش کی اور عوامل قُدْرَتِ میں سے کسی عامل نے اُٹھ کر انہیں اور اُن کے سارے تمدن کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ اُجڑی ہوئی بستیوں کے مٹی اور ریت کے نیچے دبے ہوئے آثار اور اُن کی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کے بکھرے ہوئے افسانوں کے سوا کوئی چیز ان کی یاد تک دلانے والی باقی نہ رہ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی رستی کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، شرک اور بت پرستی کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر معمورہ عالم کو طرح طرح کے فسق و فجور سے مامور کر دیا تو اس زمین کے شکاف اور آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے جن کی راہوں سے پانی کے ایک ہیبت ناک طوفان نے حملہ

کر کے تمام انسانی آبادیوں کو ڈھانپ لیا اور خدا کی ہستی سے انکار اور اس کے احکام سے سرتابی کرنے والے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ قوم عاد کے گردن فرازوں کو آٹھ دن اور آٹھ رات مسلسل چلنے والی تیز آندھی نے ناگہانی موت کی نیند سُلا دیا۔ قوم ثمود کی پیٹھ پر خدائے قدیر و جلیل کی قدرتِ کاملہ کا تاویسی اور تخریبی تازیانہ خوفناک گرج اور بجلی کی صورت میں لگا۔ جس نے آنا فنا سب کو بے جان کر کے رکھ دیا۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں اپنے باشندوں کے شرک و طغیان اور فسق و فجور کے باعث زلزلہ کے ہلاکت خیز جھٹکوں اور آتش فشاں پہاڑ کے دہانہ سے اُچھل اُچھل کر گرنے والے سنگریزوں کی بے پناہ بارش سے تباہ ہو گئیں۔ مدائن والوں اور جنگل کے باشندوں کو دھوئیں کی گھنگور گھٹاؤں نے گھیر لیا اور زلزلہ نے ان کی عمرانیات کا خاتمہ کر دیا۔ آل فرعون کے لئے بحیرہ قلزم کے پانی نے مٹھ کھول دیئے۔ سبا والوں کی بستیاں پہاڑوں سے اُٹ اُٹ کر آنے والے سیل رواں کے سامنے بہہ گئیں اور وہ ملک جو سرسبزی و شادابی میں بے مثل سمجھا جاتا تھا لقمہ و دق صحرا بن کر رہ گیا۔ جس میں باغوں اور کھیتوں کی جگہ بیریاں اور جھاڑیاں اُگ آئیں۔ بنی اسرائیل مخالف اقوام کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور اصحابِ فیل کا تیا پانچہ محیط ہوا کی ایک مخلوق یعنی ابابیل نے مٹی کی کنکریاں گرا کر تباہ کر دیا۔

قرآنِ حکیم نے ان مللِ قدیمہ کے ہولناک انجاموں کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے جو عناصرِ قدرت کی بے پناہ انتقام طلبیوں کا تختہ مشق بنیں۔ اگر بدکردار ملل کو سزا دینے کا معاملہ محض انسانوں کے مختلف گروہوں کے باہمی جدال و قتال پر موقوف ہوتا اور نوعِ انسانی کی تاریخ ایسے ہولناک واقعات سے یکسر خالی ہوتی جن میں عوامی قدرت نے قوموں کی قوموں کا صفایا کر دیا اور ان کے ترقی یافتہ تمدنوں کی بساط الٹ کے رکھ دی تو کو تاہ نظر فلسفی



کہہ سکتا تھا کہ انسانوں میں بقائے اصلح کا وہی اصول کار فرما ہے جو کرۂ ارضی کی حیوانی زندگی میں کشمکش حیات کے لئے ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ یعنی طاقتور قومیں زبردست قوموں کو پامال اور محو کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس معاملہ میں کسی فوق الفطرت اور قادر و قدیر مخفی طاقت کی کار فرمائیوں کو مطلقاً کوئی دخل حاصل نہیں لیکن خرد باختہ فلسفیوں کا فکر اس عقدہ کو حل نہیں کر سکتا کہ عوامل قدرت کیوں یک بیک انسان کے دشمن بن کر اس کی قرنهاقرن کی محنتوں کے ثمرات کو کالعدم کر دیتے ہیں؟ وہ ایسے عظیم الشوکت حادثات کو محض اتفاقات پر محمول کرتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ اس قسم کے حوادث اسی ماور قدرت کے مزاج کی برہمی کا نتیجہ ہیں۔ جس کے آغوش میں انسان و حیوان اور ہر قسم کی موجودات ارضی و سماوی پرورش پا رہی ہے۔ قرآن دانش فروش فلسفیوں کے اس نظریہ کی پورے زور سے تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قسم کے ہولناک حوادث بھی اسی خدا کے بنائے ہوئے خاص قانون کے ماتحت رونما ہوتے ہیں جس نے ارض و سما کو پیدا کیا اور اس کی موجودات کے اندر ہر قسم کی صلاحیتیں رکھ دیں۔ عناصر قدرت کی بکھیری ہوئی ہولناکیاں اور تباہیاں خود انسان کے اعمال و افعال، اخلاق و عادات اور افکار و عقائد کے نتائج ہیں، جسے کرۂ ارضی پر ایک خاص حد تک فعل مختار بنا کر امتحان کے لئے بھیجا گیا ہے وہ اس نظریہ کے ثبوت میں متذکرہ صدر ملل کی تاریخ کو ثبوت اور شہادت کے طور پر پیش کر کے کہتا ہے کہ کرۂ ارضی کے تمام حوادث کو اسی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو گے تو تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی اور تم اپنے لئے صحیح راہ عمل تلاش کرنا چاہو گے تو کر سکو گے۔

بہر حال قرآن پاک اس سلسلہ میں نوع انسانی کو یہ بنیادی اصول سمجھانے کا خواہاں ہے کہ من حیث الفرد اور من حیث التوم اگر انسان

خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لا کر اپنے اعمال و افعال اور افکار و عقائد کو اُس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ڈھال لے اور اپنی زندگی کو اُس معبود حقیقی کی رضا کے تابع بنا لے تو عواملِ قدرت اور موجوداتِ کائنات اس کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ عناصر اُس کی مدد کرتے ہیں، ہر قسم کی فوز کی راہیں اُس پر کھُل جاتی ہیں اور تسخیرِ قوائے فطرت کے مقصدِ عظیم میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں اور بہتر سے بہتر نصرتیں اس کے قدم چومنے لگتی ہیں لیکن اگر وہ اس قدر مطلق سے بے نیاز ہو کر کرۂ ارضی پر فرمانفرمائی کرنے کی کوشش کرنے لگے اور ان معمولی کامیابیوں پر جو اُسے مہلت اور امتحان کی آزمائشوں کے طور پر حاصل ہوں مغرور ہو کر اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا نافرمان ہو جائے تو ہر قسم کا فسق و فجور اُس کی زندگی میں سرایت کر جاتا ہے اور قدرت کے وہی عناصر و عوامل جو اُس کی خاطر موجود ہیں تاکہ وہ ان سے کام لے کر اپنی زندگی کو بہتر اور آرام تر بناتا چلا جائے، اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اور اس کی قرنہاقرن کی محنتوں اور کاوشوں کے ثمرات کو چشمِ زون میں فنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔

مللِ قدیمہ کے اس تذکار سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ انسان اور نوعِ انسان کی روحانی و اخلاقی کیفیات کو کائنات کے مادی عوامل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کو سمجھنے کے بعد عارفینِ راہِ صداقت خدا کا عرفان حاصل کرتے ہیں اور مقصدِ حیات کو پورے طور پر سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے حصول کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ عصرِ حاضر میں جبکہ انسان کی علمی کامیابیاں اسے پھر عصیان و عدوان کی اس انتہائی معراج پر لے جا رہی ہیں۔ جہاں پہنچ کر فرعونِ مصر نے اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى کا دعویٰ کیا تھا اور نمرود و بابل نے "أَنَا أَحْيَىٰ وَ أُمِيتُ" کا نعرہ لگایا تھا۔ مِللِ قدیمہ کے حالات

واقعات اور ان کے ہولناک انجاموں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مل فرنگ کے چند روزہ عروج نے کہہ ارضی کو پھر اسی قسم کے فسق و فجور سے معمور کر دیا ہے جو قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اہل مدین اور دوسری متعدد اقوام پر آسمانی ہلاکتیں برسائے کا موجب ہوا تھا۔ آج مل فرنگ اور ان کی تبع اور مقلد اقوام پر قرآن پاک کی بیان کی ہوئی اس حقیقت کبریٰ کے اظہار و اعلان کی اشد ضرورت ہے کہ تم بھاپ، بجلی، ریڈیم اور دیگر قوائے فطرت کو تابع فرمان بنا لینے اور فراعنہ مصر و نماردہ بابل کی طرح اپنے تمدن کے تصور کو ہالیہ کی چوٹی سے بھی ارفع و اعلیٰ کرنے، بحر و بر کو حیثہ اقتدار میں لانے اور ہوا کے کندھوں پر اڑنے کی صلاحیتیں پیدا کرنے کے باوجود ہلاکت و بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ تم صراطِ مستقیم سے ہٹ کر پھر اسی راہ پر ہو لئے ہو جس پر چل کر عاد اور ثمود، اصحاب الایکہ اور اہل سدوم و عمورہ وغیرہم ابدی ہلاکتوں کا شکار ہوئے تھے۔ قرآن پاک ان کوتاہ نظروں اور غفلت کے متوالوں سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے:

اولم یسیروا فی الارض	کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں
فینظروا کیف کان عاقبۃ	(اگر یہ کرتے) تو دیکھتے کہ جو لوگ ان
الذین من قبلہم ط کانوا	سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کا کیسا (بڑا)
اشد منہم قوۃ واثارو	انجام ہوا۔ وہ لوگ ان سے قوت میں
الارض و عمرؤھا اکثر مما	بھی کہیں بڑھ کر تھے۔ انہوں نے
عمرؤھا وجاءتہم رسلہم	زمینیں بھی جو تیں اور ان لوگوں نے

بِالْبَيِّنَاتِ ط فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ (سورہ روم : رکوع اول)

زمین کو اپنی عمرانیات سے جس قدر پڑ گیا ہے ان سے کہیں زیادہ ان (پہلوانوں نے) پڑ کیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسول بھی کھلی کھلی باتیں اور نشانیاں لے کر آئے تھے۔ (انہوں نے اپنے اعمال کی سزا پائی) اللہ اس امر کا خواہاں نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ (لہذا تباہ ہو گئے)

بنو کبد نصر کے ہاتھوں یرود شلم کی تباہی اور بنی اسرائیل کی برپادی کے قصے میں ایک ایسی قوم کے انجام کی خبر دی گئی ہے جس کے افراد راہ ہڈی قبول کر لینے کے بعد دین کو کھلونا بنا لیتے ہیں جو بحیثیت مجموعی خدا کے منکر تو نہیں ہوتے لیکن مسلماتِ دینی کی مختلف توجیہیں اور تاویلیں کر کے طرح طرح کے فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو کھو بیٹھتے ہیں جو نوعِ انسانی کی اصلاح و رہنمائی کے لئے مومنین کے گروہ میں رہنی چاہئیں۔ ”راہ نجات“ میں اس قوم کی پیدائش کا تذکرہ ہے جو نوعِ انسانی کے لئے صحیح راہنمائی کا آخری خدائی سرچشمہ بن کر آئی ہے اور جس کے کندھوں پر قیامت تک کے لئے پیدا ہونے والے انسانوں تک پیغامِ ربانی پہنچانے کا فریضہ عائد ہو چکا ہے۔ ملتِ اسلامیہ کو جو عصرِ حاضر میں کرۂ ارضی کے اکثر نقاط پر بنی اسرائیل کی طرح مللِ فرنگ کے بنو کبد نصری حملوں کا شکار ہو رہی ہے اپنے انحطاط و زوال کے اسباب و علل تلاش کرنے کے لئے مللِ سابقہ بالخصوص بنی اسرائیل کے حالات کی جانچ پڑتال کرنی چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ کون کون سے روحانی اور اخلاقی امراض ان کی اجتماعی زندگی کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ نوعِ انسانی کی اصلاح و رہنمائی کے فریضہ

سے محروم ہو رہی ہیں ملتِ اسلامیہ کے افراد کو معلوم ہونا چاہئے کہ کرۂ ارضی پر نوعِ بشر کی بقا و ترقی کا انحصار اب اسی قوم کی روحانی اور ایمانی کیفیت پر ہے۔ جسے اپنے اعمال کے بل پر خیرالام بننا اور کھلوانا ہے۔ جب تک یہ قوم منٹائے ایزدی کو پورا کرنے کے لئے کرۂ ارضی پر موجود ہے انسان کے لئے تائب ہونے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کے مواقع بھی موجود ہیں۔ تاکہ نوعِ انسانی کی زیادہ سے زیادہ سعید رُوحیں راہِ ہدئی کو پا کر ان نعمِ خداوندی کی مستحق بن سکیں جو عقبیٰ میں ایمانداروں اور نکو کاروں کے لئے مُقَدَّر ہو چکی ہیں، اگر ملتِ اسلامیہ نے اپنے فرضِ ادائیگی میں غفلت سے کام لیا اور دُنیا بھر کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں محصور ہو گئی تو حسبِ دستور سابق نوعِ بشر کے لئے کوئی دُوسرا بشیر و نذیر مبعوث نہ ہو گا بلکہ وہ ساعت آ جائے گی جو نوعِ انسانی کی موجودہ دنیوی زندگی کا خاتمہ اور اخروی اور ابدی زندگی کی ابتدا کا باب ہے۔ جس کے بعد نجات پانے والے ابدی طور پر نجات پا جائیں گے اور محرومین ہمیشہ کے لئے عذابِ خداوندی میں گرفتار ہو جائیں گے۔

ملتِ مسلمہ کے افراد اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال و کردار سے اس سوال کا جواب دینے کے لئے مسئول ہیں کہ انہوں نے نوعِ انسانی کے کس قدر افراد کو ابدی ہلاکت سے بچانے کے لئے جدوجہد کی۔ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؟ میں نے ان افسانوں میں صرف وہی واقعات درج کئے ہیں جو مجھے قرآنِ کریم سے ملے ہیں۔ صرف اُردو کے اندازِ بیان میں رنگینی پیدا کرنے کے لئے طریق ذرا مختلف اختیار کیا گیا ہے، بعض مقامات پر تو قرآنِ کریم کی آیات کا ترجمہ ہی رکھ دیا گیا ہے۔ بعض اقوام کے حالات قلمبند کرتے وقت تورات کے عہد نامہ عتیق سے بھی مدد لی گئی ہے، لیکن اس کتاب سے کوئی ایسی بات اخذ نہیں کی گئی جو قرآنِ پاک کے نصاب سے مصدقہ نہ ہو۔

مجھے اپنے عجز اور ہیچ میسرزی کا پورا پورا احساس ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا مبلغ علم اس قدر بلند کام پر ہاتھ ڈالنے کا اہل نہیں، لیکن حصول برکت دنیوی و آخروی کے شوق سے میں نے یہ جرأت کی۔ ناظرین سے استدعا ہے کہ وہ میرے قصور فہم و کمی علم کی لغزشوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر کے طالب ہوں اور مجھے دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

مرتضیٰ احمد خاں

84223

## خونِ ناحق کا پہلا قطرہ

اللہ کی سرزمین پر پہلے انسان کا قتل

آدمؑ و حوا کو سطحِ ارضی پر آباد ہوئے ساہا سال گزر چکے تھے۔ اولادِ آدمؑ سادگی اور معصومی کے ایک عالم خود فراموشی میں پھل پھول رہی تھی۔ حوا کی بیٹیاں اور آدمؑ کے بیٹے اپنے شب و روز کا حصہ غالب خالق ارض و سما کی تمجید و تقدیس میں بسر کرتے اور مرنجاں مرنج انبساط کی دلفریبیوں میں کھیل کود کر زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ کرۂ ارض کی اس وارد اور نادر مخلوق پر طاءِ اعلیٰ کے فرشتوں کا دھوکا ہوتا تھا۔ برادرانہ اخلاص اور ہم نوعی کا احساس ان کی اجتماعی زندگی میں اتحاد و یگانگی کی رُوح بن کر سرایت کر چکا تھا۔ گناہ اور حق تلفی کا نام تک نہ تھا۔ ابھی ان کے سادہ اور پاک دلوں میں باہمی رنجشوں اور کدورتوں کے پیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ آدمؑ کی شفقت اور حوا کی محبت بھائیوں اور بہنوں کے ان تمام معصومانہ جھگڑوں کے لئے جو ان کے درمیان کبھی کبھی پیدا ہو جاتے تھے۔ ایک شریعتِ مرغوب کی طرح ضامن تھی۔ غرض مٹھی بھر انسانوں کی یہ جماعت خدا کی ان جتنی زمین پر معصومانہ انبساط کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی اور سطحِ ارضی پر انسان کا پہلا گھرانہ محبت و خلوص کا ایک دلکش گہوارہ تھا جس پر ہر وقت رحمتِ ایزدی کے موتی

برتے رہتے تھے۔

آدم اور حوا نے اپنی بود و باش کے لئے پہاڑ کے دامن میں ایک نہایت پُر فضا وادی منتخب کر رکھی تھی، جس کی سرسبزی دامانِ نگاہ کی طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس جنت ارضی میں کئی ندیاں کوستان کی برفانی چوٹیوں سے اتر اتر کر اور دامن کوہ کے شفاف اور مصفا چشموں سے پھوٹ پھوٹ کر بہ رہی تھیں۔ مختلف قسم کے میووں سے لدے ہوئے خود رو پودوں اور بڑے بڑے تناور اور سایہ دار درختوں کے جھنڈ اس پُر فضا مقام کی رونق کو دوبالا کر رہے تھے۔ قدرت کی قلمکاری نے اس تختہ زمردین پر گلہائے رنگارنگ کے اجتماع سے خط نستعلیق میں یہ عبارت لکھ رکھی تھی کہ فردوس بریں کی حُوریں پھولوں کا بھیس بدل کر زمین پر اتر آئی ہیں اور اس سبزہ زار میں پرے جملے مصروفِ خندہ آفرینی ہیں۔

سبزہ، سایہ، پھول اور میووں کی یہ کائنات تھی، جسے آدم و حوا نے اپنے مسکن ارضی کے لئے پسند کر لیا تھا۔ صبح و شام میں بسی ہوئی نسیم خوشگوار اولاد آدم کے اجسام و مشائم سے اٹھکیلیاں کرتی ہوئی چلا کرتی اور آسمان کی نیرنگیاں انسان کے لئے ہر روز حیرت و استعجاب کا ایک نیا پیغام لے کر آتیں۔ جن کے ساتھ ساتھ اس کی کائناتِ قلبی میں پُر لطف کیف انگیز مگر مرعوب کُن ردوبدل ہوتا رہتا تھا۔ قدم قدم پر پیش آنے والے نئے نئے مشاہدات و تجربات اس کی رُوح کے اندر ہر لحظہ نئے نئے جذبات و احساسات پیدا کرتے رہتے تھے۔

آدم و حوا کی نگاہ انتخاب نے گھر بنانے کے لئے اس پُر فضا وادی کو اس لئے پسند کیا تھا کہ اس آئینہ میں انہیں اپنے آسمانی نشیمن یعنی جَنَّتِ عَدْنِ تَجْرِبِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ کی ایک دُھندلی سی جھلک نظر آتی تھی۔ جس دن



سے انہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا وہ اپنے حافظہ سے مدد لے لے کر اس عالم سفلی کو عالم علوی کا ہم پلہ بنانے کی دُھن میں لگے ہوئے تھے اور جہانِ آب و گل کے خط و خال میں وہی دلفریبیاں پیدا کرنے کے متمنی تھے جو اُن کے نہا سخاۂ دماغ پر جنت کی یاد نے نقش کر رکھی تھیں۔ انہوں نے نیچر کی بے پناہ اور بے ترتیب خوبصورتی میں ایک سلیقہ اور قرینہ پیدا کرنے کے لئے شب و روز اُن تھک محنت شروع کر دی۔ یہیں سے آرٹ کی بنیاد رکھی گئی اور آدمؑ کے مسکنِ اقل کی یاد آرٹ کے بہترین تخیل کی صورت میں آج تک اولادِ آدمؑ کے دماغوں میں محفوظ ہے۔

اس پُر فضا وادی کے وحوشِ دپیور بھی مخلوقِ خداوندی کی اس نئی جنس یعنی انسان کے ساتھ مانوس ہو چکے تھے یا یوں کہئے کہ مانوس کر لئے گئے تھے۔ ہابیل ابنِ آدمؑ جب مرغزار کے وسط میں کھڑا ہو کر پورے زور کے ساتھ تعالٰ تعالٰ کی صدا بلند کرتا تو دامانِ کوہ کی آزاد بھیڑیں اور بھریاں چو کڑیاں بھرتی اور چھلانگیں مارتی اس کے گرد جمع ہو جاتیں اور ہابیل اپنے ہاتھ سے درختوں کے پتے توڑ کر انہیں کھلاتا۔ ان میں سے ایک ایک کی پیٹھ پر اپنا دستِ شفقت پھیرتا ویسے تو وادی کے ان حیوانوں کے لئے گھاس اور سبزی کی کچھ کمی نہ تھی لیکن معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ہابیل کے ہاتھ سے پتے کھانے میں خاص لذت حاصل ہوتی اور ان کے دلوں میں بھی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک اضطراری احساس پیدا ہوتا۔

آدمؑ کے بیٹے دن بھر نئی نئی چیزوں کی دریافت اور نئے نئے جانوروں کی تسخیر میں مصروف رہتے اور حوا کی بیٹیاں صُبح و شام پھول توڑنے اور پھل جمع کرنے کے دلچسپ مشاغل میں اپنا وقت صرف کیا کرتیں۔ سرشام غروبِ آفتاب کے دُھندلکے میں سب کے سب ایک مرغزار میں جو دامنِ کوہ کے

ایک چشمہ سے پھوٹنے والی دو چھوٹی چھوٹی ندیوں کے درمیان واقع تھا آدم و حوا کے گرد جمع ہو جاتے اور دن بھر کی معلومات و تسخیرات کی داستانیں سنا سنا کر ایک دوسرے کا دل بہلاتے۔ آدم و حوا بھی اپنی اولاد کی ان سرگرمیوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے اور اپنے مسکن اقل کی تفصیلات و جزئیات بیان کر کے اس لغزش پر افسوس کیا کرتے جس نے انہیں خالق حقیقی کی دائمی حضوری سے محروم کر دیا تھا۔ ان کی زبانوں پر ہر وقت اپنی معصیت کے اقرار کا ورد جاری رہتا اور وہ بات بات میں اپنے پروردگار سے مخاطب ہو کر کہتے :

”پروردگار! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ہمارے گناہ معاف کر اور ہم پر رحمت کے دروازے کھول۔ اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہ کئے اور ہم پر رحمت کے دروازے نہ کھولے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔“

غرض اسی قسم کے دلچسپ مشغلوں اور کڑی مشقتوں کے درمیان اولاد آدم اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ حوا کا پہلو ٹھا قابیل اپنی زندگی کے ابتدائی سال باپ اور ماں کی انتہائی شفقت و محبت کے جھولے جھول جھول کر بسر کر چکا تھا۔ جب ہابیل اور آدم کے دوسرے بیٹے اس نعمت سردی میں برابر کے شریک ہونے لگے تو قابیل کے دل میں ناپسندیدگی کا ایک مجھول سا احساس پیدا ہو گیا جو اُسے بعض اوقات چند لمحوں کے لئے مغموم و متفکر سا بنا دیتا اور اس کی حس تمیز تنہائی کی ساعتوں میں اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ دنیا کی ہر بات اس کی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی زندگی کے جام میں بعض ایسے تلخ گھونٹ بھی ہیں جنہیں اسے جبراً و قہراً اپنے حلق سے نیچے اتارنا پڑتا

ہے۔

قابیل ابن آدم کو اس کے باپ نے زمین کھود کر بیج بونے اور غلہ پیدا کرنے پر لگا رکھا تھا اور ہابیل دامان کوہ کی بھیڑوں اور بکریوں اور وادی کے دیگر جانوروں کو مطیع و منقاد بنانے کے دلچسپ مگر مشکل کام پر مامور تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہیبت و طاقت کے کسی پیکر یعنی وحشی درندے کو دونوں بھائی مل کر اور پتھر مار مار کر بھگا دیتے تھے اس وقت قابیل پر اپنے بھائی کی ضرورت و اہمیت پوری طرح روشن ہو جاتی تھی۔ وہ برادرانہ محبت کے نشہ میں آکر جھومنے لگتا اور فتح و کامرانی کی مسرتوں میں ہابیل کو گلے سے لگا لیتا۔

اس قسم کی نیرنگیوں اور دبستگیوں میں اولاد آدم کے دن گزر رہے تھے۔ آدم اور حوا انہیں ہمیشہ اپنے خالق و پروردگار سے طلب عفو کرنے کی تلقین کیا کرتے تاکہ ان کی خطائیں معاف ہوں اور وہ اپنی اولاد عزیز کو لے کر پھر جناتِ عدن میں جا کر آباد ہو جائیں۔ وہ کہا کرتے کہ ہمارے پروردگار نے ایک تصور کی پاداش میں ہمیں اپنے اعلیٰ گھر سے جلا وطن کر دیا ہے اور مشقت یہ تجویز کی ہے کہ ہم اس عالم کون و فساد کی تمام قوتوں کو مسخر کریں اور عناصر کی اس دُنیا کو کلی طور پر مطیع و منقاد کر کے خلافت ارضی کا تاج اپنے سروں پر رکھیں۔ پھر ہمیں حیات ابدی کے اس شجرہ ممنوعہ کے پاس جانے اور اس کے پھل کھانے کی اجازت مل جائے گی۔ جس کے قریب جانے کی پاداش میں ممکنات مضر کی اس امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے پھر ہم کامل عیش و تنعم کے ساتھ اپنے مالک و خالق کے قرب و حضور میں رہا کریں گے۔

آدم اور حوا نے کرۂ ارضی پر آکر جب سربفلک پہاڑوں اور بڑے بڑے دریاؤں، وحشی درندوں اور قدرت کی ان خوفناک نیرنگیوں کو دیکھا تھا جو

طوفانِ باد و باراں، صاعقہ اور تلاطم ہائے امواج کی مختلف صورتوں میں ظاہر تھیں تو ان کے دل میں یہ حوصلہ فرسا خیالات پیدا ہو جاتے تھے کہ اس وسعت زار عالم اور اس کی خوفناک قوتوں کو مسخر کرنے میں خدا جانے کتنا وقت صرف ہوگا لیکن اولاد کی پیدائش کے تجربہ نے اس کی ڈھارس بندھا دی تھی اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم اپنی اولاد کی مدد سے اس مشکل مہم کو سر کرنے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔

ہر صبح کا آفتاب اولادِ آدم کے لئے جدید سرگرمیوں اور نئے مشغلوں کا پیغام لے کر آتا اور تمدن انسانی کے یہ اولین معمار اپنے وظائف مفوضہ کی انجام دہی میں مصروف ہو جاتے۔ قابیل اپنے کھیتوں میں چلا جاتا اور فصلوں کو پانی دینے اور بیج بونے کے لئے نئی زمینیں تیار کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ ہابیل بھیڑوں اور بکریوں کے گلہ کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتا اور پتھروں کے ڈھیروں میں خوشنما سنگریزوں کی تلاش میں لگا رہتا۔ آدم اور حوا اپنی اپنی اولاد کی روز افزوں ابتدائی ضروریات و حاجات کے لئے مکانات کی تعمیر اور خوراک و پوشاک کی نئی نئی دریافتوں میں منہمک رہتے۔ آدم کے دوسرے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں ان کی مددگار بنتیں اور ادھر ادھر سے مطلوبہ اشیاء ڈھونڈ ڈھونڈ کر آدم و حوا کے پاس لے آتیں۔

ایک روز اس پُر فضا وادی پر گرجتے ہوئے سیاہ بادل چھا گئے اور عناصر سماوی کے خوفناک اجتماع نے آدم کے گھر کا احاطہ کر لیا، ایسا معلوم ہونے لگا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور فضائے نیلگون کے لامتناہی سمندر

میں ایک قیامت آفریں تلاطم برپا ہے جو زمین کی طرف اٹھا چلا آتا ہے تیز اور تند آندھی نے پہاڑوں اور درختوں سے ٹکرا ٹکرا کر ایک پڑھیت شور برپا کر رکھا تھا اور رعد و صاعقہ کے غیظ و غضب نے کائنات کے ذرے ذرے کو ایک محشرستان فریاد بنا دیا تھا۔ آدمؑ کی اولاد اپنے جھونپڑوں میں دبکی بیٹھی تھی اور وادی کے وحوش و طیور بھی عناصر کی اس خوفناک آمیزش اور قوائے قدرت کی اس ہولناک نمائش سے ڈر ڈر کر اور سہم سہم کر اپنی اپنی جائے پناہ میں چھپ گئے تھے۔

چند لمحہ کے لئے بارش ذرا تھمی، بادل کی تاریکیوں میں آنا فنا روشنی کے تڑپتے ہوئے شعلے دوڑنے لگے۔ کائنات ارضی و سماوی کھلکھلا کر ہنسی اور پھر تاریکی میں غائب ہو گئی۔ ایک لمحہ کے لئے سکون اور خاموشی کا عمل ہوا۔ رعد اپنے انتہائی زور کے ساتھ گرجا اور اس کے دل دہلا دینے والے نعرہ نے کائنات میں ایک لرزہ پیدا کر دیا۔

اولادِ آدمؑ کی چندھیائی ہوئی آنکھیں کھلیں تو اس نے دیکھا کہ اُس کے اندوختہ مال پر بجلی گر چکی تھی۔ قابیل کا خرمن جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ ہابیل کی بکریاں مر گئی تھیں اور آدمؑ کا باغ ویران ہو گیا تھا۔

قابیل کی آنکھیں اس نظارہ کی تاب نہ لاسکیں۔ اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ اس کے چہرہ پر رنج و افسوس کی تاریکی چھا گئی۔ اس کی رُوح ورد و کرب کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا دماغ تمللانے لگا اور اس کی آنکھوں میں رنج اور غصے کے آنسو ڈبڈبا آئے۔ اُس نے ایک طویل ٹھنڈی سانس بھر کر کہا:

”میری محنت برباد ہو گئی۔ قدرت کی غیبی قوتوں نے میرے حال پر ظلم کیا اور آدمؑ کے اللہ نے بھی میری کوئی مدد نہ کی۔“

بھیڑوں اور بکریوں کی اچانک موت پر ہابیل کو بھی افسوس تو ہوا لیکن اس کی بلند فطرت نے وہ اثر قبول نہ کیا جو قابیل پر ہوا تھا۔ اُس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مالک حقیقی کی بارگاہ میں یوں گڑ گڑانے لگا۔

”اے خالق ارض و سما! تو کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، میں تیری رضا

پر شاکر ہوں، مجھے اور بکریاں مطیع کرنے کی توفیق عطا کر۔“

آدمؑ و حواؑ قدرت کی ان نیرنگیوں کو دیکھ دیکھ کر حسبِ معمول یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ :

”پروردگار! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ہمارے گناہ معاف کر اور ہم پر

رحمت کے دروازے کھول اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہ کئے اور ہم پر

رحمت کے دروازے نہ کھولے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔“

اُس دن سے قابیل سخت مغموم رہنے لگا۔ اس کی رُوح بے قرار

ہو گئی اور اُسے دُنیا کی ہر چیز بھدی اور بھونڈی نظر آنے لگی، حتیٰ کہ بعض

اوقات وہ خود اپنی ذات سے بیزار ہو جاتا۔

ہابیل نے چند ہی روز میں بکریوں کا ایک اور گلہ جمع کر لیا اور اس کے

شب و روز مسرت و انبساط کی روحانی کیفیتوں میں بسر ہونے لگے۔ وہ حسبِ

معمول پہاڑ کی چوٹیوں پر جاتا اور اپنی آنکھوں کو کوہستان کی قدرتی کرشمہ

سازیوں سے سیراب کرتا اُس کے دل میں فرحت و شادمانی کی ایک وجدانی

کیفیت پیدا ہو جاتی اور اُس کیفیت کے سرور میں گھنٹوں بیٹھا جھوما کرتا۔

ایک روز اس کا دل بجلی گرنے کے حادثہ کی یاد سے بہت متاثر ہوا۔ وہ

سوچنے لگا کہ قابیل کیوں اس قدر اُداس رہتا ہے۔ اس کی رُوح میں ان

خیالات نے ایک قسم کی موسیقی پیدا کر دی اور اس کے دماغ میں ایسے الفاظ

جمع ہونے لگے جو ایک دوسرے سے مل کر ترنم پیدا کر رہے تھے۔ چند لمحہ کے

بعد وہ انتہائی مسرت کی ترنگ میں آکر ایک سادہ سا گیت الاپنے لگا۔ جس کا مفہوم قریب قریب یہ تھا:

”بجلی گری جس نے آدم کا باغ تاراج کر دیا“

”بجلی گری جو قابیل کے کھیتوں کو برباد کر گئی“

”بجلی گری اور ہابیل کی بکریاں مر گئیں“

”لیکن پروردگار! میں تیری رضا پر شاکر ہوں“

”مجھے اپنی بکریوں کے مرجانے کا غم نہیں“

”خداوند کی زمین بکریوں سے بھری پڑی ہے“

”قابیل اس قدر مغموم اور اُداس ہے“

”لیکن پروردگار! میں تیری رضا پر شاکر ہوں“

شعر اور موسیقی کی اس نئی دریافت نے ہابیل کے دل میں خوشی کا ایک سمندر موجزن کر دیا۔ اس کے رگ و ریشہ میں انبساط کی ایک نئی لہر متحرک ہو گئی اور وہ پوری بلند آہنگی کے ساتھ نغمہ الاپنے لگا۔ اس کی رُوح کا ذرہ ذرہ رقص کر رہا تھا اور گیت کی صدائے بازگشت نے کائنات میں ایک تھر تھراہٹ پیدا کر دی تھی۔

قابیل افسردہ دلی کے ساتھ دامن کوہ میں اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ہابیل کے اس نغمہ شیریں کی دلکش آواز پہنچی۔ وہ کوہستان کی چوٹیوں کے فاصلہ بعید سے آنے والی گونج سن کر مبہوت ہو گیا۔ ٹھٹکا اور کان لگا کر شعر اور موسیقی کے اس اجتماع پر غور کرنے لگا۔ اُس نے ہابیل کی آواز پہچان لی لیکن گیت کے معانی نے اُس کے دل میں جذبات کا ایک تلاطم برپا کر دیا اور اس کے دماغ میں بجلی گرنے کے حادثہ کی رُوح فرسا یاد تازہ ہو گئی۔

وہ سوچنے لگا کی بجلی آدم کے باغ پر بھی گری اور اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بجلی ہابیل کی بکریوں پر بھی گری اور وہ بدستور مطمئن ہے لیکن مجھے کیوں رنج و الم نے اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟

ہابیل کی گونجتی ہوئی آواز برابر اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور قابیل کے دل میں حسد کی آگ نے جو چنگاریاں پیدا کر دی تھیں انہیں ہوا دے رہی تھی۔

”ہابیل مطمئن ہے، میں مغموم اور اُداس ہوں۔ آدم کا خدا ہابیل پر مہربان ہے اور مجھ سے ناراض۔ آخر یہ امتیاز کیوں ہے؟ آدم اور حوا بھی ہابیل کی تعریف کرتے ہیں اور اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ میں عمر میں ہابیل سے بڑا ہوں۔“

اس قسم کے خیالات تھے جو قابیل کے دماغ کو پریشان کر رہے تھے۔ اس کا غصہ لمحہ بہ لمحہ تیز ہو رہا تھا۔

ہابیل کے گیت کی دلکش آواز لفظ بہ لفظ نزدیک آ رہی تھی۔ وہ اچھلتا کودتا تانیں اڑاتا دامن کوہ میں پہنچ گیا۔

قابیل نے غصہ و رنج سے بھری ہوئی آواز میں ہابیل کو بلایا اور اس سے اس قدر خوش ہونے کا سبب دریافت کیا۔ ہابیل نے کہا کہ ”میرے پروردگار نے مجھ پر انعام کیا اور مجھے شعر اور گانا سکھا دیا۔ میرا دل بہت خوش ہے اور مجھے بکریوں کے مرجانے کا کوئی غم نہیں۔“

قابیل ہابیل کی اس خوشی کی تاب نہ لاسکا۔ گرج کر بولا :

”تمہارا پروردگار تم پر مہربان ہے اور مجھ سے ناراض۔ میں تم سے اور

تمہارے پروردگار دونوں سے بیزار ہوں۔“

ہابیل نے مسرت و شادمانی کے لہجہ میں جواب دیا۔ ”بھائی! تمہارے





## بت شکن

بے جان بتوں کی جگہ اصل رب کی پرستش کی دعوت

تمدن انسانی کے اولین گہوارہ ملک بابل کی ہیكل میں دیوتاؤں بھی پرستش کا ایک عظیم الشان تیوہار منایا جا رہا تھا۔ اُر کے اصنام پرست صابی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مندر کے اندر اور باہر اپنے ارباب النوع کی عظمت و طاقت کا عاجزانہ اعتراف کر رہے تھے۔ بت پرست اپنے دیوتاؤں اور ظنی خداؤں کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہیكل کے ایک دروازہ کی راہ سے داخل ہوتے اور اظہار عقیدت و اعتراف نیاز کے طور پر انسانی ہاتھ کی بنی ہوئی خوشنما مورتیوں اور تمثیلوں اور ڈراؤنی شکلوں کے تراشے ہوئے پتھروں اور بتوں کے سامنے اکل و شرب کی مختلف الانواع نعمتیں رکھ رکھ کر دوسرے دروازہ کی راہ سے باہر نکل جاتے۔ بڑے بڑے سرکشوں اور ذی اقتدار لوگوں کی گردنیں مٹی کے کھلونوں اور پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے انتہائی عقیدت و نیازمندی کے ساتھ جھک رہی تھیں۔ انسان کی بلند اور روشن پیشانیاں جن میں شرف انسانی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ اصنام بلکہ مختلف قسم کے اوہام کے سامنے زمین پر رگڑی جا رہی تھیں۔ پجاریوں کی منڈلیاں دیوتاؤں کی تعریف میں بھجن گاتی اور گھنٹے اور ناقوس بجاتی ہوئی میلہ میں گشت لگا رہی تھیں۔

بڑے بڑے ذی شوکت پہلوان اور سلطنت ہاہل کے ذی مرتبہ اور صاحب اقتدار حاکم پتھر کی مورتیوں کے سامنے جو ناک پر سے مکھی اڑانے کی طاقت نہ رکھتی تھیں ذلت و رُسوائی کے مجسمے بن کر گر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اس زمانہ کا معزز ترین انسان نمرود بھی جس کے دربار میں اللہ کے سینکڑوں بندے ہر وقت سر بسجود رہتے تھے۔ ہیکل کے اُن بے جان اور بے حس مخلوق خداوندوں کے آگے عقیدت و نیازمندی کا خراج پیش کرنے کے لئے دست بستہ کھڑا عقل سلیم کی ہنسی اڑا رہا تھا۔

اس سارے مجمع میں صرف ایک خوش رُو نوجوان انسان کی نادانی اور ناہنسی پر ماتم کرتا نظر آتا تھا جو اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ عقل و ہوش رکھنے کے باوجود کیوں تمہارے سر پھر گئے ہیں؟ تم کیوں ایسے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہارے نقصان پر قادر ہیں؟ نادانو! تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا کہ تم ایسے معبودوں کو پکارتے ہو جو نہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں اور نہ تمہیں نسیا یا اثباتا کسی قسم کا جواب دے سکتے ہیں۔ ذرا ہوش و حواس سے کام لے کر غور کرو اور دیکھو کہ پتھر کی یہ مورتیں اور مٹی کے یہ ڈھانچے جنہیں تم ہر وقت گھیرے رہتے ہو تمہارے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟

خوشرو نوجوان کی یہ باتیں سننے کے لئے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو رہے تھے اور اس کے نئے پیغام پر جو انہوں نے اس سے قبل کسی بوڑھے سے بوڑھے کاہن اور ستارہ شناس سے بھی نہ سنا تھا۔ حیرت و استعجاب کا اظہار کر رہے تھے۔ آخر ہجوم کے چند آدمیوں نے اس نوجوان سے سوال کیا: ”آذر کے بیٹے! تم اس قسم کی باتیں اپنے دل سے کہہ رہے ہو یا ہم سے اور ہمارے دیوتاؤں سے دل لگی اور مذاق کرتے ہو؟“ اس پر نوجوان کو طیش آ

گیا۔ اُس نے کہا کہ میں تمہاری عقلوں کا ماتم کر رہا ہوں اور اپنے قلب سلیم کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچا دینے کا آرزو مند ہوں کہ میں تمہارے دیوتاؤں کا دشمن ہوں۔ میں نے دوستی اور محبت کا رشتہ اسی ایک ذات سے وابستہ کر لیا ہے جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا۔ جسے زندگی اور موت کی قدرت حاصل ہے جو زمین اور آسمان اور ان کی ساری کائنات کا مالک و پروردگار ہے۔ نادان انسانو! میں تمہیں خدائے حقیقی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم نادانی اور نافرمانی کی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ جو تم سے بتوں اور مورتیوں کے پوجنے میں سرزد ہو رہی ہیں۔

نوجوان کی باتیں انسانوں کے اس ہجوم کے دلوں اور دماغوں میں گھر کر رہی تھیں اور ان کی قوت فہم و ادراک اس کے استدلال کی قائل ہوئی جاتی تھی۔ بت پرستوں کے گروہ ابراہیمؑ کی باتیں سن کر لاجواب ہو جاتے اور یہ کہہ کر کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو انہیں مورتیوں کے سامنے سر جھکاتے دیکھا ہے اور ہم ان کے طریقہ کو چھوڑ کر تمہارے نئے خدا کو قبول نہیں کر سکتے نوجوان کی طرف سے مٹنہ پھیر لیتے اور اپنے ضمیروں کی آواز اور اپنی عقلوں کی پکار سے بے اعتنائی کا برتاؤ کرتے ہوئے ہیکل کی طرف چلے جاتے۔

غرض بت پرستوں کے اس قومی تیوہار میں نوجوان کی صدا نے ایک ہل چل ڈال رکھی تھی۔ لوگ جوق در جوق اپنے دیوتاؤں کی پرستش کرنے کے لئے آتے تھے اور راستہ میں ابراہیمؑ کی محیر العقول باتیں سن سن کر اظہار استعجاب کرتے ہوئے چلے جاتے بعض اُس سے کج بختی کرنے لگے لیکن اکثر اس کی آواز کو درخور اعتنا خیال نہ کرتے۔ لوگوں کی اس بھیڑ میں جو ہیکل سے اپنے دیوتاؤں کو ماتھا ٹیک کر واپس آ رہی تھی ملک کا فرمانروا نمود بھی اس ہجوم کے پاس سے ہو کر گزرا۔ جو ابراہیمؑ سے کج بختی کر رہا تھا۔ لوگوں نے

نمرود کی پاکی روک لی اور اس سے شکایت کی کہ صنم تراش آذر کا بیٹا ہمارے دیوتاؤں سے مذاق کرتا ہے اور ہمیں اُن کی پوجا سے منع کر رہا ہے۔ نمرود نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا۔ ابراہیمؑ ہجوم کو چیرتا ہوا پاکی کے قریب پہنچا۔ نمرود نے لوگوں کی شکایت کے متعلق استفسار کیا تو ابراہیمؑ نے نہایت بیباکی سے قلمرو بابل کے اس مغرور و سرکش فرمان فرما کے سامنے اپنے مشن کی تبلیغ شروع کر دی اور بتوں کی مذمت کرنے کے بعد نمرود کو بھی اسی وحہ لاشریک کے سامنے سر نیاز جھکانے کی تلقین کی۔ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ نمرود نے ابراہیمؑ کا یہ پیغام سُن کر کہا ”اگر ہمارے دیوتا کسی قسم کے نفع و نقصان پر قادر نہیں تو تم اُس خدا کی طاقت و قدرت بیان کر دو جس کی عبادت کے لئے ہمیں تاکید کر رہے ہو۔“ ابراہیمؑ نے جواب دیا کہ ”میں تمہیں اُس خدا کی پرستش کے لئے کہہ رہا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا جو ہمیں زندہ رکھتا ہے اور جو ہمیں وقت مقررہ کے بعد مار ڈالتا ہے۔ میرے خدا کے جیٹہ اقتدار میں موت و حیات کی قوتیں ہیں۔“ نمرود نے کہا۔ ”اگر تمہارے خدا کا بڑے سے بڑا کمال یہی ہے تو میں اس پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ انسانوں کی زندگی اور موت کے اختیارات تو مجھے بھی حاصل ہیں۔ میں جسے چاہوں زندہ رکھوں اور جسے چاہوں بیک اشارہ چشم موت کے گھاٹ اُتار دوں۔“ ابراہیمؑ نے نمرود کے اس بودے استدلال پر چمک کر جواب دیا۔ ”صرف یہی نہیں۔ میرا خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان اور ان کی کل کائنات اسی کی قدرت و طاقت کے بل پر قائم ہے۔ میرا خدا سورج کو ہر روز پورب کی سمت سے نکالتا ہے اگر تم ایسے ہی بااقتدار ہو تو ذرا اسی آفتاب کو کسی روز پچھتم کی طرف سے نکال کر دکھاؤ۔“

نمرود نوجوان کا یہ استدلال سُن کر اور اس کی بیباکی اور جسارت دیکھ کر

بھونچکا سا رہ گیا۔ اس سے ابراہیمؑ کی اس بڑھانِ قاطع کا جواب بن نہ پڑا۔ اُس نے کہا روں کو چلنے کا اشارہ کیا اور کچھ اس انداز سے کہ وہ نوجوان کی باتوں کو چنداں قابلِ التفات نہیں سمجھتا۔ آگے روانہ ہو گیا۔

جہاں کو روشن کرنے والا آفتاب دن بھر انسان کی نادانیوں کے مظاہروں کو چشمِ عتاب سے دیکھتا ہوا اُفقِ مغرب میں رُو پوش ہو گیا اور آسمان کے لاجوردی نقاب کے روزنوں سے روشن ستاروں نے جھانکنا شروع کیا۔ اُس کے بیت پرست ابراہیمؑ کے ساتھ برابر کج بختی کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے طریقے چھوڑ کر کس طرح ایک نوجوان کی باتوں پر یقین کر لیں۔ ابراہیمؑ بھی اپنی قوم کے لوگوں کو دن بھر تلقین کرنے کے بعد تھکان محسوس کرنے لگا تھا۔ اُسے اُس کے باشندوں کی نارسائی فہم اور ان کی ہٹ دھرمی پر افسوس ہو رہا تھا بلکہ غصہ آ رہا تھا۔ اُس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا اور یہ سوچ کر کہ رات کا عمل شروع ہو گیا ہے اور لوگ عنقریب اپنے اپنے گھروں کی راہ لیں گے۔ کہا ”نادانو! اگر تم میری بات نہیں مانتے اور خدائے برتر و توانا کے مقابلہ میں پتھر کی مورتیوں کو ترجیح دیتے ہو تو میں بھی تمہارے پیٹھ پھینرنے کے بعد تمہارے ان دیوتاؤں کو ایسا مزہ چکھاؤں گا جسے تم یاد ہی کرو گے۔“

چند ساعتوں کے اندر اندر میلہ بکھر گیا اور ہیکل جو آبادی سے بہت دُور واقع ہوئی تھی۔ دن بھر کی ہماہمی کے بعد رات کی سنسان تاریکیوں میں غائب ہو گئی۔ ہیکل کے اندر اور باہر جہاں دن بھر دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے انسانوں کا ایک بارونق اژدہام لگا ہوا تھا۔ ایک پڑہیت سناٹا چھا گیا۔ چاند جو آسمان کی نیلگون چھت کو طے کرتا ہوا سر پر آ پہنچا تھا۔ گھور گھور کر اُڑ والوں کے ان دیوتاؤں کی طرنب دیکھ رہا تھا۔ جن کے سامنے اشرف المخلوق

انسان کی گردنیں جھگ رہی تھیں۔ رات کی سنسان خاموشیوں میں ایک شخص کندھے پر تبر اٹھائے ہیکل کے اندر داخل ہوا۔ دیوتاؤں کے سامنے مختلف قسم کے خنانوں، مٹھائیوں اور اکل و شرب کی دیگر نعمتوں کے دسترخوان بچھے ہوئے تھے۔ سونے اور چاندی کے ڈھیر ان کے سامنے پڑے تھے۔ ہیکل کے اندر داخل ہونے والے شخص نے پتھر کی ان تمثیلوں سے مخاطب ہو کر کہا، ”انسان کی نادانی تمہارے لئے بہترین کھانے چھوڑ گئی ہے۔ پُ کیا وجہ ہے کہ تم ان کھانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور ان نعمتوں کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ چاند اور سورج کے اوتارو! تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا۔ تم میرے سوالات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟“

اس غصہ آلود گفتگو کے بعد اس شخص نے اپنا تبر اٹھایا اور پتھر کی مورتیوں کی تواضع شروع کر دی۔ تبر کی ضربیں زور زور سے بتوں کے سروں، گردنوں، کندھوں اور بازوؤں پر پڑ رہی تھیں اور پتھر کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر دُنیا کے اوقلیں بت شکن کے قدموں میں گر رہے تھے۔ ایک ساعت کی پُر جوش محنت شاقہ کے بعد اس اولوالعزم انسان نے ہیکل کی اس داخلی موجودات پر نگاہ ڈالی، تو اس نے دیکھا کہ سنگ تراشی کے کمالات کی تمام تمثیلیں جو اپنے سامنے انسان کی گردنیں خم کرانے کا موجب تھیں، خستہ حال اور برباد ہو چکی تھیں۔ چاندنی پہلے کی نسبت زیادہ شگفتہ ہو کر بت شکن انسان کی ہمت پر تحسین و آفرین کے پھول برسار رہی تھی۔ ستارے چشمک زنی کر رہے تھے۔ ہیکل کی موجودات اپنی ذلت و رسوائی پر نادم نظر آتی تھیں اور کائنات اس وحدہ لاشریک لہ کے جلال و جبروت کے سامنے سر بسجود ہو کر بت شکن انسان کی اولوالعزمی کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔

اگلے روز صبح کا آفتاب اُر والوں کے ہزیمت خوردہ دیوتاؤں اور ہیکل کی شکستہ مورتیوں پر ہنسی اڑاتا ہوا طلوع ہوا۔ صبح کے وقت پو جا پاٹھ کے لئے آنے والے پجاریوں نے اپنے دیوتاؤں کی خستہ حالی کو دیکھا اور آتش زریا ہو گئے۔ مورتیوں کی شکست کی خبر بجلی کی سرعت رفتار کے ساتھ شہر بھر میں پھیل گئی اور انسانوں کا وہی ہجوم جو کل پتھر کے ان ٹکڑوں کی عظمت کے سامنے سرنیاز خم کر رہا تھا۔ آج ان کی بربادی اور بیچارگی پر نوحہ خوانی کے لئے جمع ہو گیا۔ بت پرست اور اُن کے کاہن بہت غضبناک ہو رہے تھے۔ اژدہام میں ایک ہیجان کا عالم تھا۔ آتش غیظ و غضب سے مشتعل ہونے والے صابی اپنے دیوتاؤں کی یہ توہین دیکھ کر آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ صنم پرستوں کے درمیان طرح طرح کی چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کل اور اس سے پیشتر آذر کے بیٹے ابراہیم کو ان بتوں کی شان میں مکروہ اور گستاخانہ کلمات کہتے سنا ہے۔ دیوتاؤں کی توہین کا یہ ارتکاب اسی نوجوان کا کام معلوم ہوتا ہے۔

بعض لوگ ابراہیم کو پکڑ کر موقع واردات پر لے آئے۔ ہیکل کے پجاریوں اور سلطنت کے ارکان نے اس سے باز پرس شروع کر دی۔ ابراہیم نے غضبناک لوگوں کے اژدہام کثیر میں کھڑے ہو کر ٹوٹے ہوئے بتوں اور شکستہ مورتیوں کی طرف اشارہ کیا اور نہایت بیباکی سے باواز بلند کہا۔ ”پتھر کے یہ ٹکڑے تمہارے دیوتا ہیں۔ تم انہیں بڑی بڑی طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ خیال کرتے ہو۔ ذرا ان ہی سے پوچھ لو کہ کس بت شکن کے تیر نے ان کا اقتدار ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کی عظمت خاک میں ملا دی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمہارے یہ دیوتا رات کی تاریکیوں میں چڑھاوے کی قابوں پر آپس



میں لڑ گئے ہوں اور بڑے بت نے اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر چھوٹے بتوں کا یہ حال کر دیا ہو ذرا ان سے استفسار تو کرو اور دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں۔

ابراہیمؑ کی یہ باتیں سن کر اُر والوں کے ارباب اقتدار کی نظریں جھک گئیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے دیوتاؤں کی بیچارگی پر نادم ہونے لگے اور انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا کہ بت محض مٹی کے کھلونے ہیں۔ انہوں نے کہا ”تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے دیوتا بول نہیں سکتے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان میں آپس میں لڑنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں۔ پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا ارتکاب بڑے بت نے کیا ہے اور اس فعل کی ذمہ داری کسی انسان پر عائد نہیں ہوتی۔“

اُر والوں کا یہ جواب سن کر ابراہیمؑ کا چہرہ فرط جوش سے تہمتا اٹھا۔ اس نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا ”میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ تمہارے دیوتا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں اور نہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب ان میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا کچھ بگاڑ سکیں تو تم جو ان مورتیوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ کیوں ان کی غیر معمولی طاقتوں کے قائل ہو؟ کیوں ان سے ڈرتے ہو؟ کیوں ان سے مُرادیں مانگتے ہو؟ کیوں اپنی گردنیں پتھروں کے سامنے جھکاتے ہو؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا۔ کیوں تم ہدایت کی سیدھی راہ پر گامزن نہیں ہوتے اور اس خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے جو اقتدار کلی کا مالک ہے۔“

ابراہیمؑ کی اس تقریر نے اُر والوں کو لاجواب کر دیا۔ اس کے عقلی استدلال کی بجلی اُن کے دل و دماغ پر گرمی جس نے ان کے خرمین ادراک کو جلا ڈالا۔ وہ اپنے دلوں میں بہت خفیف اور نادم ہوئے لیکن قائل ہو کر ابراہیمؑ

علیہ السلام کے پیغام پر ایمان لانے کے بجائے ان کے افلاس ثعلقل نے انہیں اور بھی برافروختہ کر دیا۔ ہجوم کی طرف سے دیوتاؤں کی توہین کے انتقام کا مطالبہ ہونے لگا۔ اُر کے بت پرست کہنے لگے کہ ہم ابراہیمؑ کو سنگسار کر دیں گے۔ اسے جلتی ہوئی آگ کے تنور میں پھینکیں گے۔ ہم اپنے دیوتاؤں کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے آباؤ اجداد کے طریقوں کو ایک نوجوان کے استدلال کے سامنے پامال ہوتا دیکھنا گوارا نہ کریں گے؟

کاہنوں اور سلطنت کے بااقتدار لوگوں نے مشورہ کیا اور مشتعل ہجوم کی سامنے اعلان کر دیا کہ ابراہیمؑ کو قوانین ملکی کے تحت شدید سزا دی جائے گی۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے تنور میں ڈالا جائے گا اس طرح اس سے دیوتاؤں کی توہین کا انتقام لیا جائے گا۔

کاہنوں نے لوگوں کو ایک بہت بڑی بھٹی تعمیر کرنے اور اس میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دے دیا اور کہہ دیا کہ جو شخص اس بت شکن کے جلانے کے لئے مسالہ کی فراہمی میں حصہ لے گا اس سے دیوتا بہت خوش ہوں گے۔ چند روز کے اندر اندر پختہ اینٹوں اور پتھروں کی ایک بہت بڑی بھٹی تعمیر ہو گئی جس کے اندر ہزاروں من ایندھن بھر دیا گیا۔ تعزیر کے دن اس بھٹی کے پاس اُر والوں کا ایک عظیم الشان میلہ لگا اور ابراہیمؑ کو بھٹی کے اندر پھینک کر تیل میں ڈوبے ہوئے ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔

چند لمحہ کے اندر بھٹی کی آگ پورے زور کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ شعلوں کی لپیٹ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ فضا میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ آفتاب غروب ہونے کو تھا اس لئے اُر والے بت شکن کے جلانے کا پورا انتظام کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کائنات ارضی کو رات کے عمل نے آگھیرا۔

رات کے دوران میں قدرت کی مختلف قوتیں برسرکار رہیں۔ زلزلہ کے جھٹکوں، آندھی اور بارش کے طوفانوں، رعد اور برق کی نیرنگیوں نے اُروالوں کو اپنے گھروں سے سر نکالنے کا موقع نہ دیا۔

دوسرے دن کا آفتاب طلوع ہوا تو اُروالوں کے لوگ بھٹی کی آگ کا تماشا دیکھنے کے لئے اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے لیکن اس میدان میں جہاں انہوں نے دیوتاؤں کی توہین کرنے والے بت شکن کے لئے جہنم تیار کی تھی سبزے کی شادابی اور شگفتگی کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ نمرود کے پیادے دریافت حالات کے لئے بھاگے ہوئے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیمؑ پھولوں کے ایک خیاباں میں سر بسجود ہو کر قادر مطلق کی برتری اور توانائی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ درختوں کی شاخوں پر چھمانے والے پرند تسیج میں مشغول ہیں اور کائنات زبانِ حال سے پکار پکار کر اس عظیم الشان پیش گوئی کا اظہار کر رہی ہے کہ مسلک ابراہیمؑ دنیا بھر کے صنم خانے تباہ و برباد کر کے انسان کی بد عقیدتی کے جہنم کدوں کو ایمان کے گلزاروں میں تبدیل کر کے چھوڑے گا۔

## تعمیر کعبہ

اللہ کے گھر اور عبادت گاہ کی تعمیر

سائرہ کو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نوے سال کی عمر میں اس کا دامنِ اُمید گلہائے مُراد سے بالا مال ہو جائے گا اور وہ اپنی گود کے مولودِ مسعود سے شہورِ صد سالہ کی بوڑھی نکر مضبوط کرے گا سامانِ مہیا کر سکے گی۔ تاہم اس نے ابراہیمؑ کو دوسری شادی کر کے اولاد حاصل کرنے کی اجازت دیتے وقت یہ پختہ وعدہ لے لیا تھا کہ ہاجرہ اور ہاجرہ کی اولاد اس کی تابع فرمان رہے گی۔ فطرتِ نسوانی کے اس اقتضا سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسحاقؑ کی پیدائش کے بعد سائرہ کے دل میں ہاجرہ کے بیٹے اسمعیلؑ کے لئے وہ محبت و شفقت قائم نہ رہتی جو اسے اولاد کی طرف سے مایوس ہونے کی صورت میں تھی لیکن سائرہ کا یہ مطالبہ یقیناً حدِ اعتدال سے متجاوز تھا کہ ہاجرہ اور اسمعیلؑ دونوں اپنے خداوندِ مجازی کی چھت کے نیچے نہ رہیں اور اتنی دُور چلے جائیں کہ سائرہ اُن کی صورت دیکھنی تو درکنار ان کی خبر تک بھی سننے نہ پائے۔

ابراہیمؑ سخت کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف انہیں سائرہ کی نازک طبیعت کا خیال آتا تھا جو آج تک کسی قسم کے سخت الفاظ کی متحمل نہ ہوئی تھی۔ دوسری جانب انہیں اور ان کی دوسری بیوی ہاجرہ کو اپنا وہ مُقدس وعدہ

بھی یاد آ رہا تھا جو دونوں نے شادی کے موقع پر خدا کو حاضر و ناظر جان کر سائرہ کے ساتھ کیا تھا کہ ہاجرہ اور اس کی اولاد سائرہ کی تابع فرمان رہے گی۔ غرض سائرہ کے اس مطالبہ نے بھرے گھر کو عجب پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا اور ابراہیمؑ اپنی بیوی کی یہ تریاہٹ دیکھ دیکھ کر ایک عجیب کشمکش میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سائرہ کا یہ مطالبہ سراسر ناجائز ہے تاہم وہ اس وعدہ کی بنا پر جو اس نے اپنے شوہر اور اس کی دوسری بیوی سے لے رکھا تھا، حق رکھتی تھی کہ ہاجرہ اور ہاجرہ کے بیٹے اسمعیلؑ کو اپنے حسبِ منشاء عمل پیرا ہونے پر مجبور کرے اور چاہے انہیں ابراہیمؑ کے گھر میں رہنے دے چاہے نکال دے۔

ابراہیمؑ اپنی بیوی کو اس قدر سخت مطالبہ سے باز رہنے اور رحم و نرمی سے کام لینے کی تلقین کر رہے تھے لیکن سائرہ کہاں ماننے والی تھی۔ ابراہیمؑ کی طرف سے اس نادری حکم کو جامہ عمل پہنانے میں جس قدر تاخیر یا تساہل ہوتا تھا، سائرہ کے غصے کا پارہ اور بھی بلند ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر صبر و شکر اور تسلیم و رضا کی تہی ہاجرہ سے نہ رہا گیا۔ اُس نے جی کڑا کر کے اپنے محبوب شوہر سے کہا کہ سائرہ کے حکم کی تعمیل لابدی ہے۔ آپ انہیں زیادہ خفا نہ کریں۔ میں اپنی بڑی بہن اور مریہ کی خوشنودی کی خاطر کہیں دُور چلی جاؤں گی اور محنت و مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالوں گی۔

ہاجرہ نے اپنے اور اپنے شوہر کے قول کا پاس کرتے ہوئے شوہر کے گھر کو خیرباد کہنے کی تیاری کر لی اور ابراہیمؑ نے جو حوادثِ روزگار کی بیسیوں نیرنگیاں دیکھ چکے تھے اور ہر نئی مصیبت اور ہر نئے ابتلا کو اپنے خالق و مالک کا نیا امتحان تصور کر کے تسلیم و رضا کی گردن خم کرنے کے عادی ہو چکے تھے، باچشمِ پُرْنَم ہاجرہ اور اسمعیلؑ کو اس محیط اور حاوی طاقت کے سپرد کر دیا، جو انسان و حیوان کی زندگی کی محافظ اور اس کے رزق کی کفیل ہے۔ ہاجرہ و اسمعیلؑ

سے نکل کھڑی ہوئی اور اس مختصر سے زادراہ کے ساتھ جو ساتھ نے اُسے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی، کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔

ایک روز ہاجرہ عرب کے ریگستان میں سفر کر رہی تھی کہ اسمعیل نے پانی مانگا۔ ہاجرہ نے مشکیزہ دیکھا تو خالی ہو چکا تھا۔ لقمہ ووق بیابان میں جہاں دُور دُور تک انسان تو کیا چرند و پرند کے آثار بھی نظر نہ آتے تھے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ کسی طرف نخلستان یا سرسبزی کا نشان تک دکھائی نہ دیا۔ جو پانی کی موجودگی پر شاہد ہوتا۔ ماں اپنے اکلوتے جگر بند کو تسلیاں دیتی ہوئی کوہستان کی طرف لے چلی۔ جس کی سیاہ چوٹیاں نظروں کے سامنے آفتاب کی تیز شعاعوں کے باعث چمک رہی تھیں۔ صحرائے عرب کی دُھوپ اور ریگستان کی سموم ہاجرہ کے دل کی کلی پڑمردہ کرنے کے لئے غیر معمولی شدت دکھا رہی تھی۔ پہاڑ کے دامن تک پہنچتے پہنچتے اسمعیل بے کل ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں نے چلنے سے جواب دے دیا اور وہ چکر کھا کر اس سنگلاخ قطعہ زمین پر گر پڑا جس میں برگ و گیہا کا نام تک نہ تھا۔

ماں نے اپنے جگر بند کے اوپر دوپٹے کا سایہ کر دیا اور خود برہنہ سر ایک پہاڑی کی طرف دوڑی۔ تاکہ اُس کے دامن میں کوئی کنواں یا چشمہ تلاش کرے اور اپنے دل بند کے لئے جو پیاس کے مارے بیہوش ہو رہا تھا آبِ حیات لائے۔

ہاجرہ یا بیتی ہوئی ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئی۔ جہاں سے اُس نے

چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کہیں پانی کا نشان نظر نہ آیا۔ وہاں سے دوڑتی ہوئی اُتری اور دوسری پہاڑی کی طرف گئی جو تیر کی زد کے فاصلہ پر سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہاں بھی پانی کا کوئی نشان نہ ملا۔ وہ اپنے بچے کی حالت کا خیال کر کے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ سراسیمگی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی۔ واہمہ کی فریب کاریاں اُسے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر لے جاتیں۔ چنانچہ ہاجرہ نے اسی بدحواسی میں صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر کاٹے، لیکن پانی کا نشان نہ ملتا تھا نہ ملا۔ تھک کر چور ہو گئی تو اپنے دلہند کو دیکھنے کے لئے مڑی۔ اسمعیل دوپٹے کے سائے میں پڑا جان کنی کی صعوبتوں میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ قریب گئی تو قریب ہی شیریں پانی کا ایک چشمہ نظر آیا جو اس سنگلاخ زمین کے سینے سے اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے کسی سنگدل شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہوں، گویا ہاجرہ کی بے کسی دیکھ کر کائنات کا دل بھی پکھلنے لگا تھا اور پتھر کی آنکھ بھی پڑ آب ہو گئی تھی۔ ہاجرہ نے اسمعیل کے منہ میں شیریں پانی کی بوندیں ٹپکائیں۔ بچے کے رگ و ریشہ میں تازگی آنے لگی اور کچھ دیر کے بعد اُس نے آنکھیں کھول دیں۔

ہاجرہ کو اس شیریں چشمہ کا پانی ایسا پسند آیا کہ وہ اسی کے قریب ٹھہر گئی تاکہ راستہ چلنے والوں اور بھولے بھٹکے مسافروں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دے سکے۔ یہ مقام جہاں ہاجرہ کو پانی کا ایک چشمہ مل گیا تھا شام سے ملک سبا کو جانے والی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ رہروؤں اور تجارتی قافلوں نے اس چشمہ کی دریافت کو اسمعیل کی برکت پر محمول کرتے ہوئے نعمت غیر مترقبہ تصور کیا اور لوگ ہاجرہ کو پانی کا محصول ادا کرنے لگے۔ اس طرح ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسمعیل کی گزر اوقات کا قدرتی سامان مہیا ہو گیا۔ انہیں مسافروں اور قافلے والوں کی معرفت اسی وادی غیرزی زرع میں بیٹھے بیٹھائے

کھجوریں اور کئی قسم کے دوسرے پھل ملنے لگے۔ دونوں ایک مختصر سا جھونپڑا بنا کر صفا اور مروہ کے دامن میں چشمہ کے قریب رہنے سہنے لگے۔

چند سال یونہی گزر گئے اور سارہ اپنے شوہر کے سامنے ہاجرہ اور اسمعیل کی غربت پر اظہار تاسف و معذرت کرتی ہوئی دوسری دنیا میں چل بسی۔ ابراہیم اپنے جد امجد یعنی آدم علیہ السلام کے مقدس معبد کی تلاش میں نکلے۔ کئی دن کے بعد ابراہیم کی ساندنی صفا اور مروہ کے درمیان ہاجرہ اور اسمعیل کے جھونپڑے کے قریب آ کر خود بخود ٹھہر گئی۔

ابراہیم نے سواری سے اتر کر ان ٹوٹے پھوٹے پتھروں پر غور کی نگاہیں ڈالیں، جن کے قریب ناقہ خود بخود ٹھہر گیا تھا، دیکھا کہ عمارت کے کچھ آثار موجود ہیں۔ عقل سلیم نے ابراہیم کی رہنمائی کی۔ جبریل امین نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہی وہ مقدس معبد ہے جسے سب سے پہلے آدم نے تعمیر کیا تھا۔ ابراہیم نے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ تسبیح و تقدیس باری تعالیٰ سے فارغ ہو کر سر اٹھایا تو ابراہیم نے دیکھا کہ ان کی عذاکار بیوی ہاجرہ اور اس کا اکلوتا ولسند اسمعیل بھی اس سجدہ نیاز میں جو انہوں نے خدا کا پہلا گھر ملنے پر ادا کیا تھا، ان کے ساتھ شریک تھے۔

باپ اور بیٹا، بیوی اور شوہر اس ملاقات پر بہت خوش ہوئے اور ابراہیم بھی اسی چشمہ کے قریب مقیم ہو گئے، جس کی نگہبانی اسمعیل کیا کرتے تھے۔ چند روز کے بعد ابراہیم اور اسمعیل نے آدم کے معبد کی از سر نو تعمیر



شروع کر دی۔ اس مقدّس گھر کی بنیادیں اٹھانے کے وقت دونوں معماروں نے اپنے خالق و پروردگار سے یہ دُعا کی:

”پروردگار! ہم سے یہ خدمت قبول کر لے۔ بیشک تو ہی التجاؤں کا سُننے والا اور نیقوں کا جاننے والا ہے۔ پروردگار! ہم کو اپنا بندہ فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری نسل سے ایسی اُمت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر۔ بیشک تو ہی رحم کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہماری نسل کے لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ان کے قلوب کا تزکیہ کرے۔ بیشک تو ہی بالاختیار اور صاحب تدبیر ہے۔“

دُنیا جانتی ہے کہ ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کی دعا کس شان کے ساتھ بارگاہ ایزدی میں قبول ہوئی۔ اگر یقین نہ ہو تو حج کے موقع پر عرب میں جا کر دیکھ لو، جہاں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے انسانوں کے ہجوم خدا کے اس گھر کی زیارت کے لئے جمع ہوتے ہیں جسے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ نے تعمیر کیا تھا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر اس مبارک ساعت کو یاد کرتے ہیں، جس میں ہاجرہ نے کامل سعی و جہد کے بعد چاہ زمزم کو پایا تھا۔

## قربانی کی پہلی عید

اللہ کا رسول اپنے رب کے حضور اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے

آج سے ہزارہا سال پیشتر ریگستان عرب کے باویہ نشین نے عالم رویا میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے لخت جگر کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے۔ وہ خدا کا ایک مقبول و برگزیدہ بندہ تھا۔ اُس نے خیال کیا کہ میرا پروردگار اپنے بندے سے کسی قربانی کا طلبگار ہے، چنانچہ اُس نے صبح اٹھ کر اُونٹوں کا ایک گلہ ذبح کیا اور گوشت مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔

دوسری رات پھر اُس نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی قربان گاہ پر اپنے اکلوتے دلہند کو لئے کھڑا ہے، اس کے خواب ہمیشہ سچے ہوا کرتے تھے۔ اُس نے خیال کیا کہ میرا مولا مجھ سے مزید قربانیوں کا طالب ہے۔ اس لئے صبح اٹھ کر اُس نے اُونٹوں کا ایک اور گلہ ذبح کر ڈالا اور گوشت بھوکے مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔

تیسری شب پھر اُس نے عالم رویا میں یہی ماجرا دیکھا اور اپنے پروردگار کی آواز سنی کہ ہم میرے بیٹے اسمعیل کی قربانی چاہتے ہیں۔ خدا کا یہ برگزیدہ بندہ اس آواز کو سنتے ہی بستر سے اٹھ بیٹھا اور سب سے پہلے اُس نے اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور گزشتہ دو دن کی اجتہادی لغزش پر معافی مانگی۔

صبح ہوئی تو اس نے اُونٹوں، بھیڑوں اور بکریوں کے گلوں سے منہ موڑ

آیا اور اپنے دل بند سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”میرے مولانا تمہیں اپنے پاس بلایا ہے اور میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا ہوں۔“

نہے بچے کو اپنے پروردگار اور اپنے باپ کی دوستی کا علم تھا وہ اس بلاوے پر بہت خوش ہوا۔ اس کے رُخسار خدا کی راہ میں قربان ہونے کی خوشی سے تمتما اٹھے۔

خدا کے اس برگزیدہ بندے کی سعادت مند بیوی کو بھی اپنے شوہر اور اپنے خدا کے دوستانہ رشتہ کا علم تھا، جب اُس نے باپ اور بیٹے کی اس خوشی کا ماجرا سنا تو وہ بھی قربانی کی یہ نئی عید منانے میں اُن کے ساتھ شریک ہو گئی۔ صحرائیوں کے گھر عید منائی جانے لگی اور شوہر بیوی اور ان کا اکلوتا بیٹا تینوں اس نرالی قربانی کے لئے اپنی اپنی جگہ پر تیاری کرنے لگے۔

ماں نے اپنے لختِ جگر کو نہلایا۔ اسے نئے کپڑے پہنائے۔ آنکھوں میں کاجل لگایا اور رُومال پر خوشبو چھڑک دی کیونکہ وہ اپنے اور باپ کے دوست کے ہاں مہمان جا رہا تھا۔

باپ نے چھری ہاتھ میں لی اور ایک سیاہ پتھر پر گھسنے لگا تاکہ اس کی دھار زیادہ تیز ہو جائے اور بیٹے کی قربانی کا کام اتمام کو پہنچے۔

ماں نے اپنے لختِ جگر کے ماتھے پر بوسہ دیا، باپ اور بیٹا قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیٹے کو اپنے باپ کی بہ نسبت اس عید کی زیادہ خوشی تھی اور اُس کے پر شوق قدم بڑی تیزی سے قربان گاہ کی طرف اٹھ رہے تھے۔

راستہ میں ان باپ بیٹوں کو ایک شیطان ملا، جس نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی دونوں نے اس پر پتھر اور کنکر پھینکے اور وہ خوار ہو کر بھاگ گیا۔ شیطان نے اسمعیلؑ کی ماں کو بھی بہکانے کی کوشش کی اور اس سے کہا۔ تمہارا شوہر دیوانہ ہو گیا ہے جو محض ایک خواب کی بنا پر بیٹے کے گلے پر

چھری پھیرنے والا ہے۔ اسمعیلؑ کی ماں نے بھی بہکانے والے شیطان پر پتھر پھینکے اور وہ خوار ہو کر بھاگ گیا۔

قربان گاہ میں پہنچ کر بیٹے نے رَبِّ جَلِّ وِ عَلٰی كِي بَارِگَاهِ مِيں گِردنِ تَسْلِيْمِ خَم كِرُوِي۔ باپ نے چھری گلے پر رکھ دی۔ شفقت پدري نے آنكھوں پر پي باندھی۔ زُبان پر تَكْبِيْر جَارِي ہو گئی۔ دل خِدا كِي تَقْدِيْر وِ تَعْبِيْد كِرْنِي لگا اور اِبْرَاهِيْمؑ كِي رُوْح پَكَار اُٹھی۔

”میری نماز، میرا طریق، میری موت اور میری حیات اللہ کی راہ میں قربان ہوں جو کئی جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے والوں میں سب سے پیش ہوں۔“

ابراہیمؑ کے ہاتھ کو جنبش ہوئی اور ملائے اعلیٰ پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے فرشتوں کی زبان سے اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ كِي تَسْبِيْح جَارِي ہو گئی۔ جس نے فِضائے آسمانی مِيں اِيك لائِقْنَاهِي گونج پيدا كِرُوِي۔

ابراہیمؑ نے اپنے دل بند کی خُون آلود نَعَش كَا نِظَارَه كِرْنِي كِي لِيے آنكھيں كھوليں۔ تو نَقْشَه بَدَلَا هُوَا تَهَا۔ چھری اِيك دُنبے كِي گِردن پر چل چكي تھی اور اسمعیلؑ وحي آسمانی كِي اُنْگلي تَهَا مِيں مَسْكِرَا رَهِي تَهِي، اُن كَا چِهْرَه نُورِ نَبُوْت سے روشن تَهَا۔

آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بچے کے خُون، گوشت اور پوست كِي ضَرُوْرَت نہ تھی۔ وہ تم سے تَقْوٰی كَا طَلَبْگار تَهَا اور تم تَقْوٰی كے اس امتحان مِيں پُورے اُترے۔ تمہارے پروردگار نے قربانی كے لِيے يِه دُنبه بھيجا ہے اور مِيں تمھيں تمھاري بيوي اور تمھارے

ہو نہا رہے کو اللہ کی رضا کا پیغام دینے کے لئے آیا ہوں۔  
 باپ اور بیٹے نے مالک کی رضا کا مژدہ سن کر سر نیاز جھکا دیا اور زمین و  
 آسمان کی کل کائنات نے تکبیر و تہلیل کا ایک غلغلہ بلند کیا۔  
 سطح ارضی پر یہ پہلی عید قربان تھی جو خلیل اللہ کے گھر میں منائی گئی  
 اور اب اولاد خلیل کے گھروں میں ہر سال منائی جاتی ہے۔

---

## برادر فروشی

حقیقی بھائی کو اپنے مفاد کیلئے نیلام کی بھیٹ چڑھانے کا عمل

ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ یوسفؑ کے ماتھے پر بچپنے ہی سے اقبال اور طالع مندی کا ستارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراست ایمانی پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیعت کر رکھی تھی اس کے حامل اسی فرزند عزیز کے مضبوط دوش ہوں گے اور بس۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں کی بہ نسبت زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان کی حفاظت اور پرداخت میں معمول سے زیادہ انہماک سے کام لیتے تھے۔ یوسفؑ کے بھائیوں کو اپنے باپ کی نظروں میں اُس کا یوں منظور نظر ہونا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور فطرتِ انسانی کے قابیلی خصائص یعقوبؑ کے ان دس بیٹوں کے دلوں میں پوری شدت کے ساتھ بیدار ہو چکے تھے جو ماں کی طرف سے یوسفؑ کے حقیقی بھائی نہ تھے۔

یوسفؑ نے ایک چاندنی رات میں خواب دیکھا کہ وہ خود ایک نہایت بیش قیمت تخت پر بیٹھا ہے اور آفتاب و ماہتاب گیارہ روشن ستاروں کی معیت میں اس کے سامنے سجدہ تطہیمی ادا کر رہے ہیں۔ یوسفؑ نے خواب کا ماجرا

اپنے باپ سے کہہ سنایا۔ باپ کو یقین ہو گیا کہ ہونہار یوسفؑ بڑا ہو کر نبوت و خلافت کے منصب پر سرفراز ہونے والا ہے اور اس کے جاہ و جلال کے سامنے اس کے ماں باپ اور اس کے بھائیوں کی گردنیں جھکنے والی ہیں۔ باپ نے بیٹے کو اس کی آئندہ اقبال مندی کی بشارت دی اور کہا کہ اپنا خواب کہیں بھائیوں سے نہ کہہ دینا کیونکہ وہ تمہارے پہلے ہی سے حاسد اور بد خواہ ہیں۔

یوسفؑ کے اس حیرت انگیز خواب کی بھنک کسی نہ کسی طرح اُس کے بھائیوں کے کانوں تک بھی جا پہنچی اور انہیں خواب کی وہ تعبیر جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کی تھی بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ انہوں نے حسد کی آگ سے مشتعل ہو کر فیصلہ کر لیا کہ یوسفؑ کا کام ہی تمام کر دیا جائے، تاکہ اُن کا باپ پھر انہیں شفقت و محبت کی انہی نگاہوں سے دیکھنے لگے، جو یوسفؑ کی پیدائش سے پہلے ان کی طرف مبذول ہوتی تھیں۔

ایک روز یوسفؑ کے بھائی کھیل اور شکار کا بہانہ کر کے پوری حفاظت کی ذمہ داری لے کر یوسفؑ کو جنگل میں لے گئے۔ اگرچہ باپ کے دل کو اپنا عزیز فرزند بھائیوں کی تحویل میں دیتے وقت پورا اطمینان نہ تھا، تاہم اسے اپنے بیٹوں پر شبہ نہ ہوا اور اُس نے یوسفؑ کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔

یعقوبؑ کے دسوں فرزند یوسفؑ کو ساتھ لے کر آبادی سے بہت دُور جنگل میں نکل گئے اور یوسفؑ کو باپ کی نظروں سے ہمیشہ کے لئے اوجھل کر دینے کی تدابیر سوچنے لگے، کسی نے قتل کر مشورہ دیا، کسی نے درخت سے باندھ کر تنہا چھوڑ جانے کی تدبیر بتائی، کوئی اسے بھیڑیوں اور درندوں کے غار میں پھینکنے کی صلاح دینے لگا۔ بالآخر سب کی رائے قرار پائی کہ یوسفؑ کو بیابان کے کسی اندھے کنوئیں میں دھکیل دیا جائے۔ جہاں سانپ اور بچھو اسے

کٹ کٹ کر کھا جائیں گے یا وہ فاقوں کے مارے خود مر جائے۔

غرض جنگل میں ایک اندھا کنواں تلاش کیا گیا اور باپ کی متاعِ عزیز کو بیٹوں نے اُس میں ٹال دیا۔ فرزندِ انسان کی یہ شقادتِ قلبی دیکھ کر کائناتِ عالم کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔

برادرِ انِ یوسفؑ نے اس کام سے فراغت پا کر ایک شکار مارا اور یوسفؑ کے کرتے کو جو انہوں نے اس کے بدن سے اُتار لیا تھا جانور کے خُون سے رنگین کر لیا ازاں بعد سب بھائی بین و بکا کی مصیبتِ ندائیں بلند کرتے ہوئے باپ کی طرف لوٹ گئے۔

باپ صُبح ہی یوسفؑ گم گشتہ کا منتظر تھا۔ یوسفؑ کے بجائے اُس کا رنگین کرتے دیکھ کر یعقوبؑ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور شقی القلب فرزندوں نے کہہ دیا کہ یوسفؑ جنگل کے ایک پھیڑیے کا شکار ہو گیا ہے۔ یعقوبؑ کی فراستِ ایمانی دیکھ رہی تھی کہ اس کے سامنے انسان کی شکل میں دس بھیڑیے کھڑے ہیں۔ جنہوں نے حسد کی بھوک مٹانے کے لئے اپنے بھائی کا خُون نوش کیا ہے۔ باپ نے اپنے ہونہار فرزند کی جدائی کا صدمہ پورے صبر اور رضا کے ساتھ برداشت کیا، لیکن اس کی کمرہمت ٹوٹ گئی اور یوسفؑ کی یاد اُسے رہ رہ کر ستانے لگی۔

ادھر یعقوبؑ کے گھر میں یوسفؑ سے فرزند کے اس طرح گم ہو جانے پر حزن و ملال بلکہ ماتم کی صفیں بچھ رہی تھیں۔ ادھر یوسفؑ اندھے کنوئیں میں پڑا اپنے پروردگار کو یاد کر رہا تھا۔ شام کے قریب تاجرانِ مصر کا



ایک کاروان اس کنوئیں کے پاس اُترا۔ قافلہ والوں میں سے ایک شخص کنوئیں سے پانی کھینچنے کے لئے گیا ڈول کنوئیں میں ڈالا تو یوسف نے رسی پکڑ لی۔ پانی بھرنے والا شخص یوسف کے چاند سے مکھڑے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اسے سوداگری کا مال سمجھ کر قافلہ میں لے آیا۔

اگلے روز صبح سویرے یوسف کا ایک بھائی جس کے دل میں رات کے وقت جذبہٴ رحم کے کچھ اثرات پیدا ہو گئے تھے۔ دریافتِ حال کے لئے کنوئیں پر گیا اور یوسف کو وہاں نہ پا کر قافلہ میں تلاش کرنے لگا۔ یوسف بھائی کو دیکھ کر سہمی ہوئی آواز سے پکار اٹھا لیکن یوسف کی صورت دیکھتے ہی فطرتِ انسانی کی قابیلی صفات بیدار ہو گئیں۔ اس نے بھائی کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کارواں سالار سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ لڑکا تو ہمارا غلام ہے اور ہم اسے سزا دینے کے لئے اندھے کنوئیں میں ڈال گئے تھے۔ کارواں سالار نے یوسف کی طرف دیکھا جو مسترحمانہ نظروں سے بھائی کی صورت تک رہا تھا۔ آخر کچھ روکد کے بعد یوسف کے بھائی نے اُسے چند کھوٹے سکوں کے معاوضہ میں کارواں سالار کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ کاروان اس متاعِ عزیز کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔

سالہا سال گزر گئے، لیکن نہ تو صبح کو چلنے والی باؤ صبا نے مہجور باپ کے پڑمردہ دل کی کلی شگفتہ کی اور نہ شام کو چلنے والی نسیم یوسف کی کوئی خبر لائی۔ یعقوب کی فراست ایمانی کہہ رہی تھی کہ یوسف زندہ ہے اور کسی نہ کسی روز ضرور اس سے ملاقات ہو کر رہے گی لیکن وقت گزرتا گیا اور یوسف

”کی کوئی خبر نہ ملی۔ باپ کی قوتیں جوں جوں عمر کے باعث مضحل ہوتی جاتی تھیں، بیٹے کی یاد جوان ہو ہو کر تازہ ہو رہی تھی۔ یعقوب کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ ہر ملاقاتی سے پہلا سوال یہی کرتا کہ مجھے میرے یوسف کی کوئی خبر بتاؤ۔ دیار و امصار کے کاروان اور مسافر آتے تھے لیکن کوئی یعقوب کے درد مہجوری کی تسکین کا پیغام نہ مناسکتا تھا۔

سالہا سال گزر گئے لیکن یوسف ”گم گشتہ“ کا سراغ کہیں نہ ملا۔ یعقوب کے فرزند تجارتی مال لانے اور لے جانے کے لئے دور دور کے ملکوں کا سفر کرتے لیکن ان کے دلوں سے یوسف کی یاد محو ہو چکی تھی۔ برسوں کے بعد کنعان اور گردونواح کے دیگر ممالک کو قحط سالی نے آ گھیرا۔ زمین نے غلہ پیدا کرنے سے انکار کر دیا۔ آسمان نے زندگی اور تازگی بخشنے والا پانی برسائے سے جو اب دے دیا اور بندگان خدا قحط کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ تجارت غلہ لانے کے لئے دور دور ملکوں کا سفر کرتے لیکن قحط سالی ایسی عام ہو رہی تھی کہ ہر جگہ غلہ کی مانگ پائی جاتی تھی۔ صرف مصر ایک ایسا ملک تھا جہاں پر غلہ کے ذخائر افراط سے جمع تھے اور جہاں سے غیر ملکی تاجروں کو بھی کسی نہ کسی قیمت پر غلہ دستیاب ہو سکتا تھا۔ اولاد یعقوب قحط سالی کے صبر آزما دور میں بھوکوں مرنے لگی۔ آخر فرزندان اسرائیل نے مصر کے سفر کی تیاری شروع کر دی اور ایک قافلہ بنا کر ملک مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔

مصر کے دارالسلطنت کی منڈیاں پڑ رونق تھیں۔ دیار و امصار کے تاجر غلہ خریدنے کے لئے وہاں جمع ہو رہے تھے اور ہر تاجر کو وہاں کے وزیر خزانہ و ذخائر کی منظوری سے غلہ دیا جاتا تھا۔ فرزندان اسرائیل (یعقوب) بھی وہاں پہنچے۔ انہوں نے بھی وہاں کے وزیر خزانہ و ذخائر سے چند بار شتر غلہ خریدنے کی منظوری حاصل کی اور اونٹوں پر بوجھ لاد کر وطن کی طرف واپس

لوٹے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ مصر کا وزیر خزانہ و ذخائر اُن کے ساتھ خاص تعلق سے پیش آیا۔ اُس نے فرزندِ اسرائیل کی خوب دل جوئی کی اور چلتے وقت کہہ دیا کہ آئندہ سفر میں تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ میں تمہیں زیادہ غلہ لے جانے کی اجازت دے دوں گا اور اپنے باپ سے میرا سلام کہنا۔ اُن کا خیال تھا کہ وزیر خزانہ کے اس تعلق کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں۔

فرزندِ یعقوب نے گھر پہنچ کر اپنی اپنی بوریاں کھولیں۔ تو انہیں یہ دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی کہ مصر کی منڈی میں جو رقمیں انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر ادا کی تھیں وہ جوں کی توں خورجیوں سے برآمد ہوئیں۔ انہوں نے مصر کے وزیر خزانہ و ذخائر کی نیک دلی، فیاضی اور سخاوت کی بہت تعریف کی اور اپنے باپ سے کہا کہ ہم نے کبھی ایسا مہربان حاکم نہیں دیکھا جو غیر ملکی تاجروں کے ساتھ اس قدر لطف و کرم سے پیش آتا ہو۔

اگلے سال قحط سالی نے پھر زور پکڑا اور فرزندِ اسرائیل نے مصر کے سفر کی تیاری شروع کر دی انہوں نے کہا کہ ہم اب کے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جائیں گے کیونکہ ہم مصر کے وزیر خزانہ و ذخائر سے اس امر کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اگر ہم نے وعدہ پورا نہ کیا تو وہ ہمیں جھوٹا خیال کرے گا اور غلہ لانے کی منظوری نہ دے گا۔ یعقوب جو اس سے قبل یوسف کے متعلق تلخ تجربہ کر چکے تھے۔ بنیامین کو برادرانِ یوسف کی حوالگی میں دیتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے باپ کے سامنے قسمیں کھائیں اور کہا کہ ہم یوسف کے اس بھائی کی پوری حفاظت کریں گے اور اُسے ساتھ لے کر واپس آئیں گے۔ چونکہ غلہ اسی صورت میں مل سکتا تھا کہ بنیامین بھائیوں کے ساتھ جائے۔ اس لئے یعقوب علیہ السلام نے بابل

ناخواستہ سفر پر جانے کی منظوری دے دی۔

فرزند ان یعقوب مصر کے دارالسلطنت میں دوبارہ داخل ہوئے۔ غلہ خریدنے کی منظوری حاصل کرنے کے لئے وہاں کے وزیر خزانہ و ذخائر سے ملے۔ منڈیوں کا حاکم اگرچہ پیغمبر کے سارے بیٹوں سے نہایت تطف و مہربانی کے ساتھ پیش آیا۔ تاہم اُس کے لطف و کرم کی بارش یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند بنیامین پر خاص طور پر ہوتی تھی اور دورانِ قیام مصر میں بنیامین نے وزیر ذخائر سے ایک دو ملاقاتیں بھی کیں۔ بنیامین وزیر ذخائر کی نوازشاتِ خاص سے بہت شاداں نظر آتا تھا۔

فرزند ان اسرائیل اُونٹوں کے بار لاد کر مصر کے دارالسلطنت سے اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے اور وزیر ذخائر کے خاص احسانات کا تذکرہ کرنے لگے۔ ابھی شہر سے کچھ ہی دُور نکلے تھے کہ سرکاری پیادوں نے پیچھے سے ”ٹھہرو ٹھہرو“ کی آوازیں دیں اور فرزند ان یعقوب کے کارواں کو حکماً واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ سب کے سب وزیر خزانہ و ذخائر کی عدالت میں پیش کئے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ تم میں سے کسی نے چاندی کا وہ کٹورا تو نہیں چرایا۔ جو دعوتِ خاص کے موقع پر پانی پینے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔ پیغمبر کے بیٹے حاکم مصر کا یہ الزام سن کر کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے۔ آخر ان کے بار کھولے گئے اور یکے بعد دیگرے ان کے سامان کی تلاشی ہونے لگی۔ بنیامین کے بار سے چاندی کا کٹورا برآمد ہوا۔ تو فرزند ان یعقوب کے حیرت و استعجاب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا، کہ ہمارے دامن اس چوری سے بالکل پاک ہیں۔ اگر بنیامین نے چاندی کا کٹورا چرایا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں

کیونکہ اس کا ماں جایا بھائی یوسفؑ بھی چور تھا۔

وزیر اولاد یعقوبؑ کا یہ دعویٰ سن کر خاموش رہا۔ اُس نے فیصلہ صادر کر دیا کہ قانون ملکی کی رُو سے چور کا ایک سال کے لئے مصر میں مقید رہنا ضروری ہے۔

فرزندانِ اسرائیل جو باپ سے بنیامین کو واپس لانے کا حتمی وعدہ کر آئے تھے۔ حاکم مصر کے اس فیصلہ پر بہت سٹپٹائے۔ انہوں نے حاکم سے رحم و عفو کی التجا کی اور ایک ایک نے بنیامین کی جگہ پر غمال کے طور پر قید و بند کی مصیبتوں کے لئے اپنی اپنی ذات کو پیش کیا لیکن حاکم مصر کے سامنے اولادِ پیغمبر کا کوئی عذر مسوع نہ ہوا۔ وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ سزا اسی شخص کو ملے گی جس کی خورجی سے کٹورا برآمد ہوا ہے۔

فرزندانِ اسرائیل نے آپس میں مشورہ کیا اور بڑے بھائی نے کہا کہ جب تک ابا جان اجازت نہ دیں گے۔ میں اس ملک سے نہیں جاؤں گا۔ تم جا کر اُن سے سارا قصہ بیان کر دو اور کہہ دو کہ بنیامین کی چوری کی ذمہ دار ہم نہیں اور اگر ہم اسے واپس لانے کا وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس میں ہم قصور وار نہیں ٹھہرائے جاسکتے۔

یعقوبؑ کے بیٹوں نے کنعان پہنچ کر باپ سے بنیامین کی چوری اور اسیری کا ماجرا بیان کیا تو اُس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اُس کے دل میں یوسفؑ کی یاد کا زخم جو کبھی مندمل نہ ہوا تھا تازہ ہو گیا اور اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے یوسفؑ کو گم کیا، تو ایک بات بنائی اور اب بنیامین کو کہیں چھوڑ آئے تو دوسری بات بنالی ہے۔

چند روز کے اضطراب اور گریہ و زاری کے بعد یعقوبؑ کے دل کو قدرتی طور پر تسکین ہو گئی۔ اُس نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ، یوسفؑ اور بنیامین

کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ضرور اپنے بچوں کی صورت دیکھوں گا۔

بیٹے سمجھے کہ بڑھے باپ کے دل پر یوسفؑ کی جدائی کا زخم ابھی تک تازہ ہے جس نے اس کے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے تاہم وہ پھر ملک مصر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ یوسفؑ نہیں تو بنیامین ہی کو کسی طرح چھڑا لائیں۔

مصر پہنچ کر انہوں نے وزیر خزان و ذخائر سے اپنے باپ کی ابتر حالت بیان کی اور کہا کہ اُس کے دل پر یوسفؑ کے گم ہو جانے کا ایک صدمہ ہی ناقابلِ برداشت تھا، بنیامین کی اسیری نے اُس کا رہا سہا حوصلہ بھی توڑ دیا۔

فرزندان اسرائیل نے حاکم مصر سے گزارش کی کہ وہ پیغمبر کے بڑھاپے اور خستہ حالی پر رحم کر کے بنیامین کا قصور معاف کر دے اور اسے واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائے۔

وزیر خزان نے پوچھا کہ یوسفؑ کے گم ہو جانے کا ماجرا کیا تھا۔ اولاد اسرائیل نے بتایا کہ ہم سب جنگل میں شکار کھیل رہے تھے کہ یوسفؑ کو ایک بھیڑیا اچک کر لے گیا۔

وزیر خزان نے کہا۔ کہ مجھے تمہارے بیان کی صداقت پر شک ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے یوسفؑ کو اندھے کنوئیں میں ڈال دیا تھا اور پھر ایک قافلہ سالار کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔

وزیر خزان کے یہ الفاظ اولاد یعقوبؑ پر بجلی کی طرح گرے۔ ان کے مضبوط دل سینوں کے اندر لرز کر رہ گئے اور انہوں نے غور سے وزیر خزان کے متبسم چہرے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ بول اُٹھے۔ کہ ”یوسفؑ! یہ تو تم ہی ہو۔“

وزیر خزان نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسفؑ ہوں اور بنیامین میرا بھائی

ہے۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دامن چوری کے الزامات سے سراسر پاک ہیں۔ بنیامین نے کٹورا چرانے کا ارتکاب نہیں کیا تھا، بلکہ میرے ایک مصاحب نے جو واقف حال تھا، بنیامین کو یہاں رکھنے کے لئے ایک تدبیر بنائی تھی۔

یوسفؑ کے بھائی اپنے کئے پر بہت نادم ہوئے اور یوسفؑ کی عظمت اور احسان کا اعتراف کر کے اپنی گذشتہ خطاؤں کے لئے عفو و درگزر کے طلبگار ہوئے۔ یوسفؑ نے کہہ دیا کہ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی رنج نہیں۔ تمہارا قصور معاف کیا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے نیک اور دیانتدار بنایا اور ان ہی صفات کے بل پر آج میں اس رتبہ پر فائز ہوں۔

یعقوبؑ کے بیٹے یوسفؑ کے اس طرح ملنے پر بہت خوش ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے باپ کو مژدہ جانفزا سنانے کے لئے دوڑے۔ یعقوبؑ کا دل پہلے ہی سے یوسفؑ کی ملاقات کی شہادت دے رہا تھا۔ چنانچہ یوسفؑ کے مل جانے کی خوشخبری سن کر اُس کے مردہ جسم میں زندگی کی نئی رُوح دوڑ گئی۔

کچھ مدت کے بعد حضرت یعقوبؑ اور اُن کی اولاد عازم سفر مصر ہوئی اور یوسفؑ نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ بیٹوں نے تخت کے گرد ایک حلقہ ڈال لیا اور سب نے یوسفؑ کی عظمت کے سامنے سجدہ تسلیمی ادا کیا۔ اس طرح یوسفؑ کے اُس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی جو اُس نے اپنے ایام طفولیت میں دیکھا تھا اور جو اس پر جلاوطنی کے مصائب عائد کرانے کا موجب ہوا تھا۔

## فرشتے کا امتحان

اللہ کی پرستش کرنے والا بدی کی دعوت ٹھکراتا ہے

مصر کے دارالسلطنت میں تاجروں کا ایک قافلہ شام، کنعان، فلسطین اور ایشیا کے دیگر ممالک کا تجارتی مال لے کر وارد ہوا۔ اور اہل مصر سرزمین ایشیا کے نوادر خریدنے کے لئے اس بازار میں جمع ہونے لگے، جو اہل کاروان نے لگا رکھا تھا۔ تاجروں کے تجارتی ملبے میں دس بارہ سال کی عمر کا ایک حسین و جمیل لڑکا بھی تھا جس کی بلند پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا اور جس کی شکل و صورت اور اوضاع و اطوار سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یقیناً کسی عالی نسب گھرانے کا فرزند ہے جسے ماں باپ نے نہایت ناز و نعم سے پالا ہوگا لیکن حوادثِ روزگار کے باعث آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ تجار اسے چند ٹکوں کے منافع کی خاطر فروخت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

بادشاہ مصر کا ایک رکن حکومت جسے عزیز مصر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، دسآوری مال کے اس بازار کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے سرزمین ایشیا کی دیگر سوغاتوں میں اس حسین و جمیل ہونہار کو بھی دیکھا جس کے گرد تماشاہائوں کا ہجوم نیرنگی قسمت اور گردش بخت پر تاسف کر رہا تھا۔ لڑکے کی موہنی صورت نے عزیز مصر کے دل میں گھر کر لیا۔ اس نے کارواں سالار سے نہایت ناقابلِ ذکر قیمت پر لڑکا خریدا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ عزیز مصر کی بیوی جس کے ہاں



کوئی اولاد نہ تھی، اس لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میاں بیوی نے باہم ٹھان لی کہ ہم اس اجنبی لڑکے کو اپنا فرزند سمجھ کر پالیں گے اور اسی کی موہنی صورت دیکھ دیکھ کر اپنی محروم اولاد آنکھوں کو سیراب کیا کریں گے۔

دنیا کا ہر مولود جہاں جاتا ہے اپنی قسمت اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے چنانچہ یوسفؑ اس طرح فروخت ہو کر عزیز مصر کے گھر پہنچا تو چند روز کے اندر ہی اندر اس کے منصب میں اضافہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے گھر میں رزق کی وہ کشائش ہوئی جو پہلے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ عزیز بھی چنداں نا فہم نہ تھا۔ اس نے اپنی خوش حالی کو اس سعید رُوح کی تشریف آوری کی برکت پر محمول کیا اور عزیز مصر کے گھر میں یوسفؑ کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔

عزیز مصر نے یوسفؑ کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا، اپنا ہی فرزند سمجھ کر اُس کی پرورش کی اور اس کی تعلیم و تربیت میں بھی خاص اہتمام سے کام لیا گیا۔

چند سال کے دوران میں یوسفؑ جوان ہو گیا اور اُس کی میس بھگنے لگیں۔ عنفوان شباب کی رعنائیاں اس کے نیک اور خوبصورت چہرے پر سو جان سے قربان ہو رہی تھیں۔

انسان کی فطرت ایک ایسا معما ہے جسے حکما کی کاوشیں آج تک حل نہ کر سکیں۔ پھر انسان کی صنف نازک کی فطرت تو ایک ایسا عقدہ لاینحل ہے جو بسا اوقات علم النفس کے کسی نظریے یا ضابطے کے مطابق نہیں اُترتا۔ عزیز کی بیوی جس نے یوسفؑ کو فرزند سمجھ کر پالا تھا۔ اُس کے جوان ہونے پر اُسی پر فریفتہ ہو گئی۔ اُس کے دل میں یوسفؑ کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرنے کی زبردست خواہش نشوونما پانے لگی۔ پہلے تو اُس نے طرح طرح کی

مشہور طرائقوں کے سرچشمے سے یوسفؑ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے تمام نسوانی اوزار اس صالح نوجوان کے دل پر جن کی نظریں فرط حیا کے باعث ہمیشہ جھکی رہتی تھیں۔ کسی قسم کا اثر پیدا کرنے سے قاصر رہے جاتے ہیں تو اس نے وہ بات کی، جو محض اس عورت کی ذات میں پائی جاتی ہے، جس کی فطرت صحیحہ مسخ ہو چکی ہو، یعنی وہ اپنا حرف مطلب زبان پر لے آئی اور شرم و حیا کو بلائے طاق رکھ کر علی الاعلان یوسفؑ سے اظہار معاشقہ کرنے لگی۔

لیکن یوسفؑ پر ان باتوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے عورت کے اظہار عشق و محبت کے ہر موقع پر اسے حیا اور نیکی کی تلقین کی۔ یوسفؑ کے انکار نے عورت کے دل کی لگی کو اور بھی بھڑکا دیا اور اس نے تمبیہ کر لیا کہ میں اس نوجوان کے تقویٰ کو برباد کر کے چھوڑوں گی جو میری التجاؤں کو اس طرح پائے احمقاہ سے ٹھکرا رہا ہے۔

ایک روز یوسفؑ کسی حکم کی خاطر دالان میں گیا۔ جہاں عزیز کی بیوی نے تنہائی کا موقع پا کر اسے گھیر لیا اور زہد و اتقا کے اس پہلو کو دام فریب میں پھانسنے کے لئے طرح طرح کے جتن کرنے لگی۔ یوسفؑ جس کی زبان پر قدرتی طور پر انکار جاری ہو چکا تھا اس کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوا۔ اس سے کہنے لگا: کہ تمہارے شوہر نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ اس گھر میں میں اس طرح رہتا ہوں۔ جس طرح گھر کا مالک ہوتا ہو۔ میں اپنے آقا کے احسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا اور اس کی امانت میں خیانت کرنے کا جرم مجھ سے نہ ہو گا پر نہ ہو گا یہ کہہ کر یوسفؑ نے عزیز کی بیوی کی طرف سے ہمدردی اور درود و دعاؤں کی طرف ہمالہ۔ تاکہ اس بد نیت عورت کے پنچہ سے بچ سکے۔ اور شکر گزار بنی علی طرف درغلا رہی تھی۔

عزیز کی بیوی منت سلیمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی اور اس کے پیراہن کے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی۔ جونہی اس عورت نے جو ناچائز تعشق کے جذبات سے دیوانی ہو رہی تھی ریشمیں قبا پر ہاتھ ڈالا۔ دامن پھٹ کر تار تار ہو گیا۔

ادھر دروازہ کی راہ سے عزیز مصر گھر میں داخل ہوا۔ شوہر کو داخل ہوتے دیکھ کر عزیز کی بیوی لرز گئی، لیکن اپنے بچاؤ کی خاطر اس کی فطرت نسوانی کی دوسری قوتیں بیدار ہو گئیں۔ اُس نے شوہر کی صورت کو دیکھتے ہی گفتگو کا موضوع بدلا اور یوسفؑ کو دھڑا دھڑا کوسنے لگی۔

خفت اور شرمندگی کے احساس نے اس عورت کے غصے کا پارہ اور بھی بلند کر دیا اور اُس نے اپنے شوہر کے سامنے یوسفؑ کی پاکدامنی پر صاف اور صریح الفاظ میں یہ تہمت لگا دی کہ اُس نے ناپاک ارادے سے میری طرف رجوع کیا تھا۔ بیوی کی باتیں سُن کر عزیز کو طیش آ گیا، وہ تازیانہ بے کر یوسفؑ کو زد و کوب کرنے ہی کو تھا کہ یوسفؑ نے اپنی برأت کا اظہار کر دیا، اتنے میں گھر کے متعلقین بھی شور و ہنگامہ سُن کر جمع ہو گئے اور چالاک عورت کی بہتان طرازی اور سادہ نوجوان کے اقرار معصومیت کا تماشا دیکھنے لگے۔ آخر انہیں میں سے ایک شخص نے عزیز مصر سے کہا کہ اگر یوسفؑ کی قبا سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسفؑ کا قصور ثابت ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہوئی ہے تو خطا تمہاری بیوی کی ہے۔ یوسفؑ کی قمیص دیکھی گئی تو عزیز مصر کو اس کی پاکدامنی کا یقین آ گیا۔ اُس نے اپنی بیوی کو اُس کے ناپاک ارادے پر لعنت طامست کی اور بات گئی گزری ہو گئی۔

اس حادثہ کے بعد بھی جس میں عزیز کی بیوی کو ندامت اور زبردست  
 نرک اٹھانی پڑی تھی۔ اُس نے یوسفؑ سے معاشقہ کی راہ و رسم پیدا کرنے  
 کے لئے کوششیں جاری رکھیں۔ عزیز کی بیوی کے عشق کی داستان جسے گھر کی  
 خادماؤں نے سُن پایا تھا۔ شہر کی اعلیٰ سوسائٹی میں عام ہو گئی اور اہلیہ عزیز کی  
 ملاقاتیں اسے غلام سے عشق کرنے کے طعنے دینے لگیں۔ عزیز کی بیوی اپنی  
 سہیلیوں کو جو اس واقعہ کے بعد اس کی ہراز بن گئی تھیں۔ یوسفؑ کے حُسن  
 و جمال اور اُس کی جوانی کے متعلق بہت کچھ کہتی، لیکن وہ کب ماننے والی  
 تھیں؟ اول تو انہیں اس امر کا یقین ہی نہ آتا تھا کہ ایک غلام بچہ میں اس  
 قدر دلفریبیاں موجود ہو سکتی ہیں کہ عزیز کی بیوی یا کوئی اور صاحبِ منصب  
 عورت اُس پر فریفتہ ہو جائے۔ دوسرے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے  
 تیار نہ تھیں کہ کوئی نوجوان ایسا صالح ہو سکتا ہے کہ عورت اور پھر حسین  
 عورت کے چرتروں کے سامنے مضبوطی سے ثابت قدم رہ سکے۔

آخر یوسفؑ کے امتحان کے لئے ایک دن مقرر کیا گیا۔ اُس دن عزیز  
 کی بیوی نے اپنی سہیلیوں کو پُر تکلف دعوت دی۔ سردارانِ مصر کی بہو بیٹیاں  
 اور دیگر عورتیں اس دعوت میں شریک ہوئیں۔ عزیز کی بیوی نے ان کی  
 مہمان نوازی کا کام یوسفؑ کے سپرد کر دیا، تاکہ عورتیں اسے اچھی طرح دیکھ  
 سکیں اور اُسے دامِ تزویر میں پھنسانے کے لئے جو جتن چاہیں کر لیں۔ دستر  
 خوان بچھا اور سب لوگ کھانے پر آ بیٹھے۔ یوسفؑ اُن کی خدمت گزاروں کے  
 لئے حاضر تھا، لیکن اس کی حیا پرور نگاہیں فرش پر گڑی ہوئی تھیں۔ کھانے  
 کے دوران میں مزے مزے کی گفتگو ہوتی رہی اور سب عورتوں نے مل کر  
 اس نوجوان کی حیا دُور کرنے کی کوشش کی۔ جب گفتگو سے کاربر آری نہ

ہو سکی تو ان میں سے اکثر عورتوں نے جو بہت شاطر تھیں پھل کاٹنے کی چھریوں سے اپنے ہاتھ زخمی کر لئے اور عاشقانہ خوشامد کے طور پر یوسفؑ سے کہنے لگیں کہ تمہارے حسن و جمال کے نظارہ نے ہمیں اس حد تک بے خود بنا رکھا ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء کا بھی ہوش نہیں رہا۔

زنانِ مصر کے یہ سب تریاچر ترنا کام ثابت ہوئے اور یوسفؑ نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جس پر سب کو متفقہ طور پر فیصلہ صادر کرنا پڑا کہ یہ نوجوان انسان کی صنف سے نہیں، بلکہ آسمان سے اترنے والا کوئی فرشتہ ہے۔ جس پر ہمارے حسن اور ہمارے ہنر کا کوئی جادو نہیں چل سکتا۔

عزیز کی بیوی فرشتے کا یہ آخری امتحان لے کر اس کی طرف سے مایوس ہو گئی۔ اب اُس نے یوسفؑ کو بڑائی پر رضامند کرنے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور اُسے قید کرانے کی دھمکیاں دیں۔ جب اُس نے دیکھا کہ یوسفؑ ان دھمکیوں میں بھی نہیں آتا تو اُس نے اپنے شوہر سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس نوجوان غلام سے سخت بیزار ہوں اور صرف اس شرط پر اس گھر میں رہ سکتی ہوں کہ اسے قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر جسے یوسفؑ کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور جو اس کی نیکی، پارسائی، امانت اور سادگی کا بہت مداح تھا۔ اپنی بیوی کی دلجوئی کے جذبہ پر قابو نہ پاسکا۔ اُس نے یوسفؑ کو بے گناہی کے اعتراف کے باوجود زنداں میں ڈال دیا اور عورت کی دلجوئی کی خاطر ایک بے کس اور بے وطن نوجوان پر ظلم کرنے کا مرتکب ہوا۔ یوسفؑ نے اس گھر پر جس میں ہر وقت اُسے شیطانی اغوا کا خدشہ لگا رہتا تھا۔ برضا و رغبت زنداں کو ترجیح دی اور قید میں رہنا پسند کر لیا۔

قیدخانہ کے اندر یوسفؑ کو کئی سال گزر گئے اور کسی نے اس بے گناہ اور مظلوم نوجوان کا حال نہ پوچھا۔ یوسفؑ کی نیک دلی اور صداقت

شعاری کے چرچے زندانِ مصر کی محدود دیواروں کے اندر انسانوں کی طرح پھیل گئے اور سب قیدی اس نوجوان کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ قیدخانہ کے اندر یوسف کی نیکی اور پارسل کی کا شہرہ عام ہو گیا اور مصیبت زدہ قیدی اپنے دلوں کی کلفتیں دُور کرنے کے لئے اس صالح نوجوان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ جس کی صحبت میں بیٹھ کر اور جس کی باتیں سُن کر اُن کے بے قرار دلوں کو ایک خاص قسم کی راحت اور تسکین حاصل ہوتی تھی۔

قیدخانہ کے اندر بادشاہِ مصر کے دو ملازمانِ خاص بھی کسی الزام کی پاداش میں قید و بند کی کڑیاں جھیل رہے تھے۔ ایک رات انہوں نے تعلیمت پر معنی خواب دیکھے اور صبح اٹھ کر اس صالح نوجوان سے تعبیر پوچھنے کے لئے گئے۔ جس کی روشن ضمیری اور نکتہ رسی کی نظیریں وہ پہلے بھی متعدد بار مشاہدہ کر چکے تھے۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے بیان کیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے مصاحب نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا دیکھا ہے جس پر کتے اور چھلیں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہیں اور روٹی کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ یوسف نے دونوں قیدیوں سے خواب کا ماجرا سُن لیا اور اُن سے کہا کہ میں تمہیں ان خوابوں کی نہایت صحیح تعبیر بتاؤں گا کیونکہ اللہ نے مجھے تعبیر کے علم میں خاص دسترس عطا فرمائی ہے۔

یوسف نے تعبیر بتانے سے پیشتر بادشاہ کے ان دونوں مصاحبوں کو اسلام لانے کا پیغام سنایا اور اللہ پر ایمان لانے کی حقیقت و اہمیت بیان کی۔ ازاں بعد اُن سے کہا کہ جس شخص نے خواب میں انگوروں سے رس نکالا ہے وہ از سر نو بادشاہ کا مقرب خاص بن جائے گا اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کا

ٹوکرا دیکھا ہے وہ سولی پر لٹکایا جائے گا اور کونے اور ٹالپوں اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔

یوسف نے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے بعد مقرب خاص بننے والے شخص سے کہا کہ جب تم پھر اپنے رہتہ ملتی گری پر فائز ہو جاؤ تو اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ شخص محض عورتوں کے مکر و فریب کی بدولت جیل میں پڑا سزا رہا ہے۔

چند روز کے اندر اندر بادشاہ کی عدالت سے ان دونوں غلاموں کے متعلق فیصلے صادر ہو گئے اور یوسف کی تعبیر کے مطابق ایک قیدی بادشاہ کا مقرب خاص بن گیا اور دوسرا سولی پر لٹکایا گیا۔

مقرب خاص بننے والا شخص زندان سے باہر نکل کر یوسف کا پیغام بھول گیا اور اس نے بادشاہ سے یوسف کے متعلق کوئی ذکر نہ کیا۔ پھر یوسف کو قید میں پڑے چند سال اور گزر گئے۔

ایک دفعہ بادشاہ مہر نے رات کی تاریکی میں ایک بڑا معنی خیز خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر درباریوں سے بیان کیا، خواب چونکہ بہت پیچیدہ تھا۔ اس لئے شاہی مہر اور نجومی اس کی کوئی ایسی تعبیر بادشاہ تک نہ سامنے نہیں نہ کر سکے، جس سے اس کے دل کو تسکین ہوتی۔ بادشاہ اور اس کے مقربوں کو کسی تعبیر بتانے والے شخص کی تلاش ہوئی تو ملتی خاص کو زندان کا قید یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے اپنے خواب کی داستان بیان کی اور کہا کہ قید خانہ کے اندر ایک نہایت صالح شخص مقید ہے۔ وہی اس خواب کی تعبیر بیان کرے گا۔

چنانچہ بادشاہ سے اجازت لے کر ساقی قید خانہ میں گیا اور یوسفؑ سے ملا۔ معذرت خواہی کے بعد اُس نے یوسفؑ سے بادشاہ کا خواب بیان کیا اور کہا کہ بادشاہ نے سات موٹی گایوں کو سات ڈبلی گایوں کی خوراک بنتے دیکھا اور اس کے بعد اسے خواب میں سات ہری بالیں نظر آئیں اور سات سُوکھی۔

یوسفؑ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ملک مصر پر پہلے سات سال خوشحالی کے آئیں گے اور ازاں بعد سات سال بڑے زور کا قحط پڑے گا۔

لوگوں نے خوشحالی کے سات سال کے اندر جتنا ذخیرہ جمع کیا ہوگا۔ وہی قحط کے سات سال کے اندر کام آئے گا۔ اس لئے اہل مصر کو چاہئے کہ پہلے سات سال میں ضرورت و احتیاط سے زیادہ جس قدر غلہ پیدا ہو وہ بالیوں ہی کے اندر ذخیرہ کر رکھیں۔

ساقی خاص تعبیر پوچھ کر بادشاہ کے پاس واپس گیا۔ تعبیر کی یہ تشریح بادشاہ کے دل کو بہت پسند آئی۔ اُس نے ذہن خداداد رکھنے والے قیدی کے مزید حالات معلوم کئے اور حکم دیا کہ اُسے قید خانہ سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔

بادشاہ کے پیادے رہائی کی نوید لے کر یوسفؑ کے پاس پہنچے اور اس سے بادشاہ کے فرمان کا حال بیان کیا۔ یوسفؑ نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو چاہئے کہ پہلے اس الزام کی نسبت تحقیقات کرا لے۔ جس کی پاداش میں مجھے قید میں ڈالا گیا تھا اور اُن عورتوں سے جنہوں نے بیگم عزیز کی دعوت پر اپنے ہاتھ زخمی کر لئے تھے میرے چال چلن کی نسبت استفسار کرے۔

بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر دعوت کی داستان سنی تو انہیں صاف طور پر اس امر کا اقرار کرنا پڑا کہ ہم نے یوسفؑ کے اندر کسی قسم کی بُرائی نہیں



دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے بھی یوسفؑ کی عفت کی شہادت دی۔

اس قصہ کے بعد جس سے یوسفؑ کی پاکدامنی شاہی عدالت کے سامنے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی اور سب کو یقین ہو گیا کہ یوسفؑ کا دامن خیانت اور بددیانتی کے تمام الزامات سے یکسر منزہ ہے۔ یوسفؑ بادشاہ کے حضور میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے کسی منصب پر سرفراز کرنے کی خواہش ظاہر کی تو یوسفؑ نے وزیر خزان و ذخائر ہونا قبول کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں طبعاً امین پیدا ہوا ہوں اس لئے خزانوں اور ذخیروں کا انتظام میرے ہاتھ میں بہت عمدہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت یوسفؑ اس عمدہ جلیلہ پر فائز کر دیئے گئے اور ہر اس امتحان میں پورے اترے جو حوادث روزگار یا گرد و پیش کے حالات نے ان کے سامنے لا کر ڈال دیا تھا۔

## کرشمہ قدرت

مصر کی پیدائش اور پرورش کے

رات کے پچھلے پہر جس وقت صبح صادق کی سپیدی اٹل مشرق پر نمودار ہو رہی تھی اور آسمان کے ستارے جھللا جھللا کر یکے بعد دیگرے گھومتے جاتے تھے۔ قراعنہ مصر کے متمدن دارالحکومت پر گہری نیند کا ایک ستارہ چھایا ہوا تھا۔ شہر میلوں کی وسعت میں پھیل رہا تھا اس کی پر شکوہ عمارتیں سرخسک اہرام، سڑکیں اور سڑکوں پر چہرہ دینے والے بلند قامت درخت رات کی زوال پذیر تاریکی میں کسی سنسان اور بے آہلو ویرانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ نیند کی مستیوں نے سرزمین مصر کے آقاؤں اور غلاموں پر بے خودی اور بے ہوشی کا ایک عالم کیف طاری کر رکھا تھا۔ باؤ نسیم جو رات کے نصف اقل میں دریائے نیل کی موجوں کو تھپک تھپک کر سلامنے کی کوشش کرتی رہی تھی اس وقت استراحت کرنے کے لئے کسی نامعلوم مقام پر جا کر چھپ گئی تھی قراعنہ مصر کی متمدن بہتی میں زندگی کی اگر کوئی حرکت یا جنبش نظر آ رہی تھی تو وہ امواج نیل کی روانیوں میں تھی۔ جنہیں ایک ستم برسیدہ عورت ساحل دریا پر کھڑی بیم و رجا کی متذبذب نگاہوں کے ساتھ گھور رہی تھی۔

عورت کی بغل میں ایک مقفل صندوقی تھی جسے وہ اپنے دھڑکتے ہوئے قلب کے قریب چھاتی سے لگائے کھڑی تھی۔ کبھی اس کی نظریں دریائے نیل کی تیز رو موجوں پر جم جاتیں جن کی روانی دریا میں گریسنے والی مختلف اشیاء کو کال بے دردی کے ساتھ بہائے لے جا رہی تھی۔ کبھی اس کی نگاہیں آسمان کی نیلگوں چھت کی طرف اٹھ جاتیں۔ جس پر ٹھٹھکتے ہوئے ستاروں کی لاتعداد آنکھیں سطح ارضی کی سنسان خاموشی پر چشمک زنی کر رہی تھیں۔ دریا کی پھلیوں سطح آب پر اچھل اچھل کر پروردگار کی اس بے شمار زندہ مخلوق کی ہستی پر شہادت دے رہی تھیں جو پانی کی امواج میں طعم کے اندر اس حسی و معنوم کے آغوش قدرت میں پل رہی تھی اور اسے ڈوب کر فنا ہو جانے کا مطلق خوف نہ تھا۔

سامنے افق مشرق پر لختہ بہ لختہ بڑھتی ہوئی سفیدی جہاں لکھنے نئی زندگی کا پیغام لا رہی تھی۔ ستارے جھلملا رہے تھے۔ اگرچہ زمین پر ایک قسم کا سکوت چھایا ہوا تھا لیکن ہماری کائنات صبح صادق سے امید ورجا کا پیغام سن کر مجسم نظر آتی تھی۔

عورت نے نظریں جھکا کر صندوقی کی طرف دیکھا۔ آسمان پر لگا ہوا نیل کی ہتلاطم امواج کو گھورا اور کنارے پر جھک کر صندوقی کو بس میں عودت کی عزیز ترین متاع بند تھی، آہستگی کے ساتھ دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا۔

پانی کا ایک ریلا آیا اور صندوقی کو تنکے کی طرح بہالے گہرا صندوقی سطح آب پر تیرتی اور موجوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی صبح صادق کے ڈھلکے میں غائب ہو گئی۔

عورت کی آنکھیں پر آب ہو گئیں اور اس کے سہمے ہوئے دل سے

ایک سرد اور طویل سانس نکلی۔ وہ امواج نیل پر خوف اور اُمید کی بھری ہوئی نگاہ ڈال کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آبادی کی طرف لوٹ گئی۔

صندوبچی دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی فرعون کے شاہی محلات کے قریب پہنچ گئی جس کی محکم اور سنگین دیواریں نیل کی موجوں کو پائے استحقار کے ساتھ ٹھکرا رہی تھیں۔

قلعہ کی فصیل سے اترنے والی وسیع سیڑھیاں سطح آب پر پہنچ کر موجوں کے نیچے غرق ہو جاتی تھیں اور فرعون کی ملکہ اپنی اماؤں اور خواصوں کے ہمراہ سب سے نچلی سیڑھی پر صندلی بچھائے بیٹھی طلوع آفتاب اور پانی کی رنگ آمیزیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ موجیں صندلی کے پایوں کے ساتھ اٹھیلیاں کر رہی تھیں۔

ملکہ نے دُور سے سطح آب پر تیرنے والی صندوبچی کو اپنی طرف آتے دیکھا اور خادمہ کو جو تیرنے کے فن میں بہت مشاق تھی، پکڑ لانے کا حکم دیا۔ خادمہ امواج نیل کو چیرتی ہوئی صندوبچی تک پہنچ گئی، جو بیتابانہ اسی کی طرف آ رہی تھی اور چند لمحوں کے اندر اندر امواج نیل کے اس بے بہا خزانہ کو لے کر ملکہ کے حضور میں حاضر ہو گئی۔

ملکہ، خواصیں اور خادما میں سب کی سب صندوبچی میں چھپے ہوئے راز کو دیکھنے کے لئے بے قرار تھیں۔

خادمہ نے قفل توڑ کر صندوبچی کھولی تو اُس میں روئی اور مٹل کے مکلف بستر پر ننھا سا فرشتہ متبسم نظر آیا جس کے چاند کے مکھڑے کو دیکھ کر ساری کائنات خوشی کے مارے کھلکھلا کر ہنس دی۔ اُدھر اِنقِ مشرق سے آفتاب مامتاب نے سر نکالا اور دُنیا کو اس مولود مسعود کی بلند اقبالی کی بشارت

مکمل ہے

ملکہ کا دل اس ننھے سے فرشتے کو دیکھ کر خوشی کی افراط میں بلیوں اُچھلنے لگا اور وہ بچے کو صندوقچی سے نکال کر پیار کرنے لگی۔

خوامیں اور خادمائیں امواج نیل کے اس فرزند کی موہنی صورت پر عش عش کر اُٹھیں۔ انہوں نے اس درشاہوار کے ملنے پر ملکہ کو مبارکباد دی۔ ملکہ اپنی خالی گود میں ایک حسین و جمیل ہونہار دیکھ کر فرط انبساط سے مسحور ہو رہی تھی۔ ننھے سے فرشتے کے تبسم نے اُس کے پڑمردہ دل کی کلی شگفتہ کر دی تھی۔ اُس کی رُوح رقص کرنے لگی اور اولاد کے نہ ہونے کی نامرادی نے اس صحیح الفطرت عورت کے دل پر غم و الم کی جو گھنائیں محیط کر رکھی تھیں وہ سب کی سب یک قلم کافور ہو گئیں۔

وہ بچے کو گود میں اٹھائے شاہی محل کی طرف لوٹ گئی تاکہ شوہر کے سامنے اپنی طالعندی کا وہ روشن ثبوت پیش کرے جو نیل کی موجوں نے اس کی گود میں لا کر ڈال دیا تھا۔

فرعون نے اس معصوم فرشتے کو دیکھ کر ماتھے پر تیوری چڑھالی اور کہا کہ یہ تو اسرائیلیوں کا بچہ ہے۔ قانون ملکی کی رُو سے اس کا قتل کر دینا واجب ہے۔

بچے کے لبوں پر ایک معصومانہ تبسم کھیل رہا تھا ملکہ نے اُس کی بلند پیشانی پر بوسہ دے کر کہا کہ کون سنگدل اس ننھے سے فرشتے پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ میں اسے اپنا بچہ بنا کر پالوں گی اور یہ ہمارے گھر کی رونق بڑھانے کا موجب ہوگا۔

فرعون جسے اولاد کے سوا دُنیا کی ہر نعمت حاصل تھی، اپنی ملکہ کی یہ دارفتگی دیکھ کر اپنے مضبوط دل کو متحرک محسوس کرنے لگا چونکہ بڑا سے بڑا فرعون بھی بعض اوقات فطرتِ انسانی کی کمزوریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس

یہ بھی ملکہ کی خاطر اس ننھے سے معصوم بچے کو گھونٹنے سے  
 روکا۔ شاہی محل میں ملکہ کی اس خوشی پر جشن منایا جانے لگا اور  
 عوام میں بچے کو لے کر کسی اٹا کی تلاش میں نکلیں۔

ادھر شاہی محل کے اندر فطرتِ انسانی کی لطیف حیات اس بچے کی  
 حفاظت کو رہی تھیں ادھر شہزادے کے اندر انسانی بربریت اور سنگدلی بنی اسرائیل  
 کے سیکڑوں بچوں کا خون بہا رہی تھی۔ ان گھروں سے جن میں ولادت فرزند  
 کے باعث عید سی خوشیاں منائی جاتیں، آہ و زاری کے دل گداز نالے بلند ہو  
 رہے تھے اور شیون و فریاد کے ڈھونڈے اٹھ رہے تھے۔ فرعون کے پیادے  
 دایوں اور جلادوں کی معیت میں بنی اسرائیل کے گھروں پر چھاپے مار رہے  
 تھے وہ جہاں کسی نئے مولود کو پاتے۔ خنجر سے ہلاک کرا دیتے۔ فرعونی اقتدار کے  
 راز کا تھڑا حکمرانی کے اس جھنڈے پر قائم تھا کہ اس نے رعایا کو مختلف  
 فرقوں اور جماعتوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک فریق حکومت وقت کا منظورِ نظر  
 تھا جو اقتدار فرعون کے قیام و استحکام میں مدد دیتا، دوسرا فریق مغضوب و مقہور  
 تھا۔ جس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے اور جس کے افراد غلام بنا کر  
 رکھے جاتے تھے۔ فرعون کی رعایا دو قوموں پر مشتمل تھی۔ ایک قبیلہ جو مصر  
 کے اصلی باشندے تھے، دوسرے بنی اسرائیل جن کے آبادیاد کنعان سے  
 نقل و حرکت کر کے مصر میں آباد ہو چکے تھے۔ فراعنہ مصر مذت سے اپنی رعایا  
 کے درمیان یہی نسلی اور ہلکی افتراق ڈال کر حکومت کر رہے تھے۔ بنی  
 اسرائیل کو قبیلوں کا غلام خیال کیا جاتا تھا۔ ان کے لئے فراعنہ کے دربار میں  
 کوئی عداوت نہ تھی۔ ان کی عورتیں ان کا مال اور ان کی اولاد سب قبیلوں  
 کے رہنے والے تھے۔ حکومت وقت اس امر کا خاص خیال رکھا کرتی کہ  
 غلاموں کی آمد بھیر میں تعداد کا اضافہ نہ ہو۔ اسے حدِ شہ تھاکہ بنی اسرائیل

کئی روز حالت پکڑ کر اپنے آپ کو قبیلوں کے جوہر سے نجات  
 دہشت کی سی کریں گے۔ بنی اسرائیل کی روز افزوں شرح پیدائش اور  
 قبیلوں کی بڑھتی ہوئی شرح اموات کو دیکھ کر اس وقت کے فرعون نے پہلا  
 قتل عام کا حکم دے رکھا تھا۔ فرعون کے کارندے اسی حکم کی تعمیل میں  
 اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کر رہے تھے اور غلام قوم کی بستیوں اور  
 محلوں میں شیون و فریاد کا ایک محشر برپا تھا۔

بنی اسرائیل کے سینکڑوں ماتم کدوں میں ایک عمران کا گھر بھی تھا۔  
 عمران کی بیوی صبح ہی سے کلیجہ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ بچوں کے قتل عام کا خیال نہ  
 رہ کر اس نیک بخت عورت کے دل میں درد کی ایک ناقابل برداشت میں  
 پیدا کر رہا اور وہ اپنا کلیجہ مسوس کر رہ جاتی۔ اگرچہ اس کی گود میں کوئی بچہ نہ تھا  
 اور نہ گھر کے اندر کسی جھولے یا پنگورے پر کوئی مولود نظر آتا تھا تاہم عمران  
 کی بیوی فرعون ظلم کا خیال کر کے سہمی جاتی تھی اور پریشانی اور اضطراب نے  
 اسے بہت بے گل اور ہستہ حال بنا رکھا تھا۔ ضبط کرنے کی تمام کوششوں کے  
 باوجود اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپ ٹپ کر رہے تھے اور  
 خوف و ہراس اور غم و آلام کے ہجوم نے مظلوم قوم کی اس ستم رسیدہ  
 عورت کو ناقابل برداشت پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا اور  
 عمران کی بیوی فرعون کے نوکروں اور ملکہ کی خادماؤں کو لے کر گھر میں داخل  
 ہوئی۔ عمران کی بیوی آنے والوں کو دیکھ کر چونک گئی اور آنکھوں سے آنسو  
 پھونک کر کسی ہولی نظروں سے داخل ہونے والوں کی طرف دیکھنے لگی۔

عمران کی بیوی نے دیکھا کہ اس کا لال جسے وہ پو پھٹنے کے وقت نیل کی خوفناک موجوں کے سپرد کر آئی تھی، ایک خادمہ کی گود میں ہے۔

ماں کی مامتا بھڑک اٹھی۔ وہ بیٹابی کے ساتھ اپنے جگر گوشہ کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی کو تھی کہ بچوں کے قتل عام کے خیال نے اسے وہیں روک دیا۔ ضبط و تحمل کی قوتوں نے بمشکل اسے اپنے مقام پر بٹھائے رکھا۔

فرعون کے ملازم نے کہا کہ ہم ملکہ کے اس فرزند کے لئے انا کی تلاش میں ہیں۔ اس لڑکی نے ہمیں تمہارا پتہ دیا ہے۔ بچے کو گود میں لے کر دیکھو کہ یہ تمہارا دودھ پیتا ہے یا نہیں؟

عمران کی بیوی کا سما ہوا دل پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا۔ اس کے چہرہ پر مسرت و انبساط کا نور چمکنے لگا۔

ماں نے اپنے بچوں کو لے کر چھائی سے لگا لیا اور بچہ جو صبح صادق کے وقت سے بھوکا تھا اپنی حقیقی ماں کا دودھ پینے لگا۔

فرعون کے ملازم اس انا کے ملنے پر بہت خوش ہوئے اور عمران کی بیوی ملکہ کے اس فرزند کی پرورش پر مامور ہو گئی۔ جبے ملکہ نے نیل کی موجوں سے وصول کیا تھا۔

ملکہ نے اس بچے کا نام کچھ اور ہی رکھا تھا لیکن انا اور انا کی بیٹی اسے موسیٰ کہہ کر پکارتیں اور اللہ کی قدرت کے اس کرشمہ پر ہمیشہ تعجب کیا کرتیں، جس نے فرعون کے اس زبردست محکمہ احتساب کے باوجود، جو بچوں کے قتل پر متعین تھا موسیٰ کو محفوظ رکھا اور خود اس کے دشمنوں کے ہاتھوں اس کی پرورش کا انتظام کر دیا۔



## آوارہ وطن مسافر

پریشاں حال اجنبی کی خانہ آبادی

صحرائے سینا کا آفتاب اپنے نصف النہار پر پہنچ چکا تھا۔ ریگستان کی خاموش اور مہیب دُھوپ اپنی انتہائی شدت اور تمازت کے ساتھ کائناتِ ارضی کا احاطہ کر رہی تھی۔ آفتاب کی تیز شعاعیں ریت کے ذروں سے منعکس ہو کر فضائے آسمانی کی طرف اُٹھتی تھیں اور خلا میں آنکھوں کو چندھیا دینے والے نور کا ایک لامتناہی تموج پیدا کر جاتی تھیں۔ حرارت آگ برسا رہی تھی۔ پیکر ناری کی پُر جلال آنکھ غضب آلود نگاہوں سے اس خطہ صحرائی کی طرف گھور رہی تھی۔ جس کی تمازت اور حرارت کو دیکھ دیکھ کر اسے دھوکا ہوتا تھا کہ شاید میرے ہی جسم کا ایک ٹکڑا عالمِ علوی سے گر کر عالمِ سفلی میں جا پہنچا ہے۔ ادھر کائناتِ ارضی کے صحرائی سینہ سے ایک خاموش، پُر کیف اور غیر محسوس سا گرم تنفس اُٹھ رہا تھا اور ریگستان کے غریب الوطن مسافر کی چندھیائی ہوئی آنکھیں محسوس کرنے لگی تھیں کہ آسمان کی چشمِ عتاب کے سامنے ساری کائنات دم توڑ رہی ہے۔

جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی ریت کے چمکتے ہوئے ٹیلے اپنی لامحدود وسعت تک دامن پھیلائے ایک پُرہیت سکوت و جمود کے ساتھ دیکھنے والے

کی آنکھ کو خیرہ کر رہے تھے، ہوا ساکن تھی اور ریت کے اس بحر ناپیدا کنار میں اگر کوئی تموج یا تلاطم نظر آتا تھا تو وہ امواج نور کی غلطانی تھی جو ریت کے ٹیلوں پر شباب کی مستی کی طرح کھیل رہی تھی۔ اس کے سوا ریگستان کی اس خاموش فضا میں کوئی جاندار شے ایسی نظر نہ آتی تھی جو اپنے تنفس ہی سے سکون و جمود کے اس طلسم کو توڑنے کی موجب بنتی۔ غزالان صحرائی کا تو کیا ذکر۔ حشرات الارض تک ریت کی نخلی تہوں میں چھپے ہوئے تھے اور صحرا کی اس کائنات میں زندگی کے آثار سراسر ناپید تھے۔

اس عالم ریگ زار میں صرف ایک اولوالعزم مسافر ریت کے بلند ٹیلے پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا اور معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں کوئی نخلستان ہو تو دُھوپ کی تمازت اور گرمی کی شدت کا وقت وہیں بسر کر لے اور اپنے طویل و پیہم سفر کی چند گھڑیاں آرام سے گزار لے۔ چاروں طرف اسے ریت کا ایک بحر بیکراں نظر آ رہا تھا جو افق کے قریب جا کر پانی کی صورت اختیار کر لیتا تھا، اولوالعزم مسافر کا واہمہ کنار افق کے اس سمندر میں کئی مقامات پر نخلستان کے ولفریب نظارے کا سراب پیدا کرتا۔ لیکن مسافر اپنی چندھیائی ہوئی آنکھیں بل بل کر بار بار دیکھتا تو سراب کی سیماب پائی اسے یقین و لادیتی کہ یہ سب سفر کی مشقتوں سے تھکی ہوئی قوت واہمہ کے کرشمے ہیں۔ جن کے ولفریب نظاروں پر دھوکا کھانا درست نہیں۔ ہاں اُسے کنار افق میں ایک سیاہ اور سبز داغ ایسا بھی نظر آتا تھا جو اپنی جگہ پر قائم تھا۔ مسافر کی تھکی ہوئی نگاہیں چاروں طرف گھوم کر پھر اسی نقطہ ماسکہ پر آ کر جم جاتی تھیں اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ غیر متحرک داغ نظر کی سراب آفرینی نہیں بلکہ فی الواقع کوئی نخلستان ہے۔

نوجوان مسافر کا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ پیاس کی شدت کے

مارے اس کا گلا سُکھ گیا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور ریگستان کے سفر کی تھکاوٹ نے اس کے قوی اور مضبوط اعضاء کو چُور کر دیا تھا لیکن اس کی اولوالعزمی نے جواب نہ دیا اور وہ اُفق کے اس سیاہ داغ کی طرف جلد جلد قدم اٹھانے لگا۔

کوئی آدھ کوس چلنے کے بعد اُسے یقین ہو گیا کہ اُفق کے سیاہ داغ کے متعلق اس کا خیال غلط نہ تھا کیونکہ اب اُسے کھجوروں کے پیڑ صاف طور پر نظر آنے لگے تھے اور داغ لئے وسعت اختیار کرتے کرتے حقیقی نخلستان کی صورت پیدا کر لی تھی۔ مسافر کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ بہت جلد زیت کے ٹیلے ختم ہو گئے اور مسافر کے تیز رو قدم ایک بنجر اور سنگلاخ خطہ زمین کو محسوس کرنے لگے۔ نخلستان قریب آ گیا اور مسافر نے انسان کی آبادی کے آثار دیکھ لئے۔

تھوڑی دیر بعد مسافر ایک کنوئیں پر تھا۔ جہاں انسانوں اور حیوانوں کا ایک ہجوم دن کے نصف اول کی پیاس بجھانے میں مشغول تھا۔ چرواہے اپنے اپنے گلے سنبھالے اس چشمہ حیات کے گرد جمع ہو رہے تھے اور یکے بعد دیگرے ڈول کھینچ کھینچ کر اپنی بکریوں اور گدھوں کو پانی پلا رہے تھے۔ نووارد نوجوان کھجور کے ایک پیڑ کے سایہ میں جا بیٹھا۔ تاکہ پانی پینے سے پیشتر ذرا ستالے اور گرمی کی شدت سایہ میں بیٹھ کر کم کر لے۔ لوگ اپنی اپنی دُھن میں لگے ہوئے تھے کسی نے اُس کی طرف توجہ نہ کی۔ اسی ہجوم میں مسافر کو دو بھولی بھالی معصوم لڑکیاں بھی نظر آئیں جو

کنوئیں سے ذرا فاصلہ پر بکریوں کے ایک گلہ کو روکے کھڑی تھیں اور اس امر کی منتظر تھیں کہ کنواں چرواہوں کے ہجوم سے خالی ہو تو وہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلائیں اور مشکیزے بھر لیں، جو خشک چمڑا ہو کر ان کے کندھوں سے لٹک رہے تھے۔

ان بھولے بھالے فرشتوں کی بکریاں پیاس کی شدت کے مارے بیتاب ہو رہی تھیں وہ بھاگ بھاگ کر کنوئیں کی طرف جاتی تھیں لیکن اکھڑ اور بد مزاج چرواہے انہیں اس پانی کے پاس نہ پھٹکنے دیتے تھے جو انہوں نے نکالا تھا۔

پانی بھرنے کے لئے کنوئیں پر مرد و زن کا ایک تانٹا لگا ہوا تھا اور اس بستی کے خود غرض انسانوں کو معصوم لڑکیوں کی بے کسی پر ذرا رحم نہ آتا تھا۔ ان کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کنوئیں پر لگی ہوئی تھیں۔ جن سے بے بسی ٹپک رہی تھی۔

نوجوان مسافر تھرو استعجاب کے عالم میں اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے نیک اور سادہ دل کے اندر ان بیکس اور بے بس لڑکیوں کے لئے ہمدردی اور رحم کے بے جملے جذبات پیدا ہونے لگے اور وہ گڈریوں اور چرواہوں کی خود غرضی اور بد مزاجی پر دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔

نوجوان اجنبی کی نگاہیں کنوئیں کی ہماہمی سے اتر کر ان بھولے بھالے معصوم فرشتوں پر ٹھہر گئیں۔ جن کے رُخسار حُسن، عصمت، سادگی اور بے بسی کے اثرات سے متمتا رہے تھے۔ لڑکیوں نے بھی نظر اٹھا کر اس نوجوان اجنبی کی طرف دیکھا، دیکھا تو پہلے بھی تھا لیکن اب کے رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ نوجوان کا دل اُچھل پڑا۔ وہ اٹھا اور ان بھولے بھالے فرشتوں کے قریب جا پہنچا۔ جن کے ساتھ انسان کی خود غرضی، وحشت اور بے اعتنائی کا

سلوک کر رہی تھی۔

مسافر نے سُربانی زبان میں لڑکیوں سے پوچھا۔ ”تم کیوں اس قدر پریشان ہو اور کیا چاہتی ہو؟“

لڑکیوں نے خاموشی کے ساتھ نظریں اُوپر اٹھائیں۔ بڑی لڑکی ایک وقار آمیز متانت کے ساتھ بولی۔ ”ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لئے یہاں آئی ہیں۔ ہمارا باپ ضعیف العمر ہے۔ اس لئے ہم خود گلے کو چراگاہوں میں لے جاتی ہیں۔ اس وقت کنوئیں پر چرواہوں کا ہجوم ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ ذرا بھیڑ چھٹ جائے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں اور مشکیزے بھر کر گھر کی طرف لوٹیں۔ جہاں والد ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔“

اجنبی کا دل لطف و رحم کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اُس نے ہمدردانہ لہجہ میں پوچھا۔ ”کنواں تو بڑی دیر کے بعد خالی ہوگا۔ تم اس وقت تک انتظار کرو گی؟“

لڑکی نے جواب دیا۔ ”جب تک گڈریئے اپنے گلے لے کر نہیں جاتے، ہمیں پانی بھرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔“

اجنبی نے کنوئیں کے گرد جمع ہونے والے اقبہ پر غصہ اور حقارت کی نگاہیں ڈالیں اور بے کس و بے بس لڑکیوں سے کہا۔ ”آؤ! میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں۔ دیکھوں مجھے کون روکتا ہے؟“

یہ کہہ کر نوجوان ڈول کی طرف لپکا اور جلد جلد پانی کھینچنے لگا۔ گڈریئے اس قوی الجشہ نوجوان کی جسارت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کچھ اس کے پُر جلال چہرہ کے رعب سے اور کچھ اس کے اجنبی ہونے کا لحاظ کر کے خاموش ہو رہے۔ لڑکیاں گلے کو ہانکتی ہوئی کنوئیں کے قریب لائیں۔ بکریاں پانی پینے سے فارغ ہو چکیں تو لڑکیوں نے مشکیزے بھر لئے اور نوجوان پیاس بجھا کر پھر کھجور کے

سایہ میں آ بیٹھا۔

لڑکیوں نے تشکر و امتنان سے بھری ہوئی معنی خیز نگاہیں مسافر پر ڈالیں اور گلے کو ہانکتی ہوئی آبادی کی طرف چلی گئیں۔  
مسافر درخت کے نیچے گہرے خیالات میں مستغرق ہو گیا۔

گھر پہنچ کر لڑکیوں نے اس نیک دل مسافر کا حال اپنے ضعیف العمر باپ سے بیان کیا۔ بوڑھے نے اپنی بڑی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ”بیٹی! تم اس مسافر کو یہیں لے آئیں تاکہ ہم اُس کی محنت کا اجر دے سکتے۔ جاؤ! اب بھی اسے یہیں بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی مہمانی کا حق ادا کر سکیں۔ مسافر کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔“

باپ کے یہ الفاظ سن کر نطفورہ کے معصوم دل میں مسرت کے ایک غیر معلوم احساس کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ جب سے کنوئیں سے چلی تھی بار بار اس کے دل میں نیک دل اجنبی کا خیال آتا تھا اور وہ دل سے چاہتی تھی کہ کسی طرح مسافر کو اس کی محنت اور ہمدردی کا بدلہ دیا جائے۔  
نطفورہ کا چہرہ فرط انبساط سے تہمتا اٹھا۔ وہ راحیلہ کو کھانا تیار کرنے کی تاکید کر کے خود کنوئیں کی طرف لوٹ گئی۔

مسافر کھجور کے نیچے گہرے خیالات میں مستغرق تھا۔ کبھی وہ اپنی موجودہ پریشان حالی پر غور کر کے متاسف ہوتا کبھی اس کے خیالات مستقبل کے نامعلوم واقعات کی طرف منعطف ہو جاتے۔ کبھی اس کے افکار وطن اور اُس کی دلچسپیوں کی طرف عود کر جاتے اور وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ

جاتا۔ وطن میں پیش آنے والے واقعہ کی یاد جس کے باعث وہ ترک وطن پر مجبور ہو گیا تھا۔ رہ رہ کر اُسے ستا رہی تھی اور منزل مقصود کے عدم تعین نے اس کے دماغ کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ طرح طرح کے افکار و آلام کی گھٹاؤں نے اس کے دل کی کائنات کا احاطہ کر لیا تھا اور وہ کھجور کے نیچے معمولی اور اُداسی کے عالم میں سر تا پا غریب الوطنی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ اُس کے بشرے سے طویل سفر کی کلفت کے ساتھ ہی ایک قسم کی انتہائی بے کسی بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ جس میں اُس کے عزم و استقلال نے ایک پُر معنی وقار پیدا کر دیا تھا۔ ماضی، حال اور مستقبل کے موازنہ کی بدولت اس کے قوائے عقلی و امتیازی کسی قسم کی رائے قائم کرنے سے سراسر جواب دے چکے تھے۔ وہ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتا اور اس خالق حقیقی سے جس کے بھروسے پر وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ مخاطب ہو کر کہتا۔

”پروردگار! میں اُس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو اپنی رحمت کے خزانوں سے میری طرف نازل کرے۔“

مسافر اسی عالم تجر و تفکر میں بیٹھا اپنی غیبت کی حالت پر غور کر رہا تھا کہ آبادی کی طرف سے ایک سروقد لڑکی خراماں خراماں اُس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے خیالات پریشان یک قلم ہانور ہوئے اور اس کی نیم وا آنکھیں جو تھکان کے باعث غموں سے عام میں تھیں۔ اپنی پوری وسعت کے ساتھ کھل گئیں۔ اس کی نگاہیں پتے سے زیادہ تیز اور صاف ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس نے بکریوں کو اس نے پانی پلایا تھا، حیا اور عصمت کا مجسمہ بن کر اسی کی طرف آرہی ہے۔

نوجوان کا دل اس کے سینے کے اندر غیر محسوس تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا اور اُس کی رُوح کا ذرہ ذرہ آنے والی بلکہ خدا کی طرف سے نازل

ہونے والی بھلائی کا خیر مقدم کرنے لگا۔

لڑکی مسافر کے قریب پہنچ کر رُک گئی۔ اس کی حیا پرور نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اُس کے انداز میں وہ معصومانہ بیباکی نہ تھی جو مسافر نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ عنفوان شباب کی معصومیت نے سادگی اور بیباکی کا چولا اُتار کر حیا اور عصمت کا پیراہن پہن لیا ہے۔

مسافر کی نگاہیں حُسن حیا پوش کے اس پیکر موزون پر گڑ گئیں اور اس کی رُوح پیغام مسرت یا حرف تسلی سننے کے لئے بیتاب ہو گئی کیونکہ وہ اسی شے کا محتاج تھا۔

لڑکی نے اپنی جھکی ہوئی پلکوں سے جھانک کر مسافر کی طرف دیکھا اور لجائی ہوئی آواز میں کہا۔

”میرا باپ تمہاری خدمت کا اچھ دینا چاہتا ہے۔ میں تمہیں بلانے آئی ہوں۔“

مسافر کے دل میں اس غیر متوقع دعوت پر مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن ایک لمحہ کے وقفہ کے بعد اُس نے کہا۔

”میں کسی قسم کے اجر کا خواہشمند نہیں۔ میں نے محض اپنا فرض ادا کیا ہے۔“

لڑکی بولی: ”لیکن والد تمہیں دیکھنے کے آرزومند ہیں، وہ ضعیف ہیں، اس لئے خود نہیں آسکتے۔“

مسافر نے قدرے تامل کے بعد چلنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھائی ہوئی گھر کی طرف لوٹی اور مسافر نہایت خاموشی کے ساتھ گردن جھکائے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں الجھا ہوا ہے۔



گھر پہنچ کر نوجوان نے بوڑھے کو سلام کیا۔ بوڑھے نے اپنی ضعیف نگاہیں اٹھا کر مسافر کے مضبوط اور سڈول اعضاء اور اس کے پُر جلال چہرہ کی طرف دیکھا۔ جس سے شرافت ٹپکی پڑتی تھی۔ خوش آمدید کہا اور ایک چٹائی پر جو قریب ہی بچھی ہوئی تھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

مسافر نے دیکھا کہ اس کے بوڑھے میزبان کے بشرہ پر نیکی اور تقویٰ کا نُور چمک رہا ہے۔

بوڑھے نے مسافر سے کہا:

”بیٹا میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم نے میری بچیوں کی مدد کی۔ اللہ تمہاری مدد کرے۔ کہو کہہ سے آرہے ہو؟ اور کہاں جاؤ گے؟“

مسافر: میں مصر سے آ رہا ہوں اور جہاں قسمت لے جائے گی چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹھنڈی سانس اس کے سینہ سے برآمد ہوئی۔

بوڑھا: ”بیٹا! آخر کہو تو! تم کون ہو؟ اور تمہارے سفر کا مقصد کیا ہے؟“

مسافر نے کہا: میرا نام موسیٰ ہے۔ میں عمران کا بیٹا ہوں جو اولاد اسرائیل میں سے تھا۔ ہمارا اصلی وطن کنعان ہے لیکن ہمارے آباؤ اجداد یوسف علیہ السلام کے وقت سے مصر میں آباد ہیں۔ مصر کا بادشاہ فرعون ہماری قوم پر ظلم کرتا ہے اور میں اسی کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لئے یہاں آیا ہوں۔“

بوڑھا: میں جانتا ہوں کہ تمہاری قوم مصریوں کی غلام ہے اور فرعون اور اُس کے لاؤ لشکر کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے، لیکن تم یہ تو بتاؤ۔ آخر کونسی بات نے تمہیں اپنی قوم کی مصیبتوں کا ساتھ

چھوڑنے پر آمادہ کیا؟“

موسیٰ: دس روز گزرے۔ مصر کے بازار میں ایک قبیلی اسرائیلی کو بے رحمی کے ساتھ زدوکوب کر رہا تھا۔ اسرائیلی نے مجھ سے امداد کی التجا کی۔ مجھے قبیلی کے ظلم پر طیش آگیا اور میں نے فرط غیظ میں اس کی گدی پر ایک مکارسید کر دیا جس کی ضرب سے وہ مر گیا۔

اگلے روز مجھے خبر ملی کہ فرعون کے درباری اس قبیلی کا قصاص لینے کے لئے جرمہ کر رہے ہیں اور مجھے پھانسی پر لٹکانے کے خواہشمند ہیں۔ میں جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگ آیا ہوں اور نو دس دن سے آوارہ پھر رہا ہوں۔

بوڑھے نے نگاہیں اٹھا کر اپنے نوجوان مہمان کی طرف دیکھا اور اس کے چہرہ پر انتہائی سادگی کے اثرات پائے۔

بوڑھے نے کہا: ”بیٹا! پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ مدائن پر فرعون کی حکومت نہیں۔ اپنے دل سے ہر قسم کے غم و الم دور کر دو۔ اب تمہاری جان محفوظ ہے۔“

موسیٰ: ”لیکن میری قوم کی جان اور عزت و ناموس تو محفوظ نہیں۔“  
یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نطفورہ کھانا لے آئی اور موسیٰ نے جو صبح سے بھوکا تھا اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ نطفورہ نے اجنبی نوجوان کی ساری باتیں غور سے سنی تھیں اور اُسے اس آوارہ وطن کی بے کسی پر ترس آ رہا تھا، وہ مسافر کو کھانا دے کر باپ کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ ”ابا اگر مناسب سمجھیں تو اس جنبی کو نو کر رکھ لیں جو کام کاج کے لئے مضبوط بھی ہے اور ویسے بھی شریف اور نیک دل معلوم ہوتا ہے۔“

بوڑھا شیخ بیٹی کا یہ مطالبہ سن کر خاموش ہو رہا۔ وہ کسی اور ہی سوچ

میں ڈوبا ہوا تھا۔

مسافر کھانے سے فارغ ہوا تو شیخ نے پوچھا:

”بیٹھا! کدھر جانے کا ارادہ ہے۔ کہاں کہاں خراب ہوتے پھرو گے؟“

موسیٰ: ”میں اپنے اصلی وطن کنعان کو جا رہا ہوں اور اپنے دادا اسرائیل کے گھر کو آباد کروں گا۔“

شیخ: ”میں بھی اولاد ابراہیم میں سے ہوں، کیا تم اپنے چچا کے گھر رہنا پسند کرو گے؟“

موسیٰ خاموش رہا اور اُس کی اضطراری نگاہ نطفورہ کے چہرہ پر پڑی جو قریب ہی کھڑی تھی۔

نطفورہ کی آنکھیں فرط حیا کے باعث جھٹک گئیں۔

شیخ نے اپنی بیٹی کو استراحت کرنے کا حکم دیا اور وہ اپنی بہن راحیلہ کی طرف چلی گئی۔

شیخ نے موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا:

”میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میری نرینہ اولاد فوت ہو چکی ہے۔ میری زندگی کے آٹھ دس سال باقی ہیں۔ تم اولاد اسرائیل کے ایک نیک جوان ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو اور اپنے چچا کے گھر کو اپنا گھر سمجھو۔“

موسیٰ: ”مجھے آپ سے مہربان بزرگ کی خدمت کرنے سے کیا انکار ہو سکتا ہے؟“

شیخ: ”فرزند اسرائیل! کیا تم آٹھ دس سال کے لئے اپنے چچا کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہو؟“

موسیٰ: ”میں بطیب خاطر آپ کے ہر ارشاد کی تعمیل کے لئے تیار

ہوں۔“

شیخ: ”اگر اس بات کے لئے آمادہ ہو تو میں اپنی نطفورہ کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گا۔“

نطفورہ صحن کے اس پار بھجور کے سایہ میں کھڑی تھی۔ موسیٰ کی نظریں صحن کی فضا کو چیرتی ہوئی وہاں تک گئیں تو اسے نطفورہ کے ملکوتی چہرہ میں اس جلوہ کی شانِ جمالی نظر آگئی، جس کی شانِ جلالی کوہ طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔

موسیٰ اور نطفورہ کی نظریں چار ہوئیں اور موسیٰ کے دل کی تمام کلفتیں اور اس کے آشفقتہ دماغ کی ساری پریشانیاں ایک لمحہ میں کاٹاؤر ہو گئیں۔ اس کی رُوح انبساط اور شادمانی کے اس مبارک ثانیہ میں رقص کرنے لگی۔ جہاں دیدہ شیخ نے موسیٰ کے چہرے کے ان تمام تغیرات کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر خاموش رہا۔

دوسرے دن مدائن والوں نے سُن لیا کہ شیخ کا بے آباد گھر آباد ہو گیا ہے اور نطفورہ کی شادی ایک غریب الوطن مسافر کے ساتھ کر دی گئی ہے۔“

## ملکہ سبا

آفتاب کی پرستش سے آفتاب کے خالق کی امان تک

انسان کی شبانہ روزانہ تھک مسانی ہبوط آدمؑ کے کئی ہزار سال بعد موجوداتِ عالم کے بہت بڑے حصہ کو مسخر کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور آدمؑ کی اولاد اپنی جغرافیائی معلومات کی وسعت کاملہ کے طول و عرض میں خلافت ارضی کا تاج زیب سر کئے لِمَنِ الْمُلْكِ الْيَوْمَ کا نقارہ بجا رہی تھی جس کی صدائے بازگشت پہاڑیوں، وادیوں اور انسان کی تعمیر کردہ پُرشکوہ عمارتوں سے ٹکرا کر کائناتِ ارضی کے ذرے ذرے سے لِلّٰهِ الْوَّاحِدِ الْقَهَّارِ کے جواب کا عاجزانہ خراج و اعتراف وصول کرنے لگی تھی۔ کرۂ زمین کے دحوش و طیور انسان کے شرف و اقتدار کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تھے اور عناصر ارضی و سماوی کی کئی ایک ظاہری اور مخفی قوتوں کے علاوہ ہوائیں اور آندھیاں بھی انسان کی مرضی کے تابع فرمان ہو رہی تھیں۔ حضرت انسان کے جلال و جبروت کا نقطۂ ماسکہ خدا کا وہ برگزیدہ نبی تھا۔ جسے آسمانی صحائف میں حضرت سلیمان ابن داؤد علیہما السلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

وادی النمل کے طویل و عریض میدان میں جو چاروں طرف سے پہاڑوں کی سربفلک چوٹیوں سے گھرا ہوا تھا۔ اولاد آدمؑ کے جاہ و جلال اور رعب و اقتدار کا ایک عظیم الشان مظاہرہ ہونے والا تھا۔ میدان خود رو جھاڑیوں سے صاف کیا جا رہا تھا۔ عساکر کی آمد و رفت کے لئے سڑکیں تعمیر ہو

رہی تھیں۔ خود رو گھاس کو ہموار کر کے خیمے اور خرگاہیں لگانے کے لئے زمینیں تیار کی جاتی تھیں اور میدان کے وسط میں بننے والے دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں کاٹ کر ہر طرف پھیلا دی گئی تھیں۔ وادی کی موجودات جو ابتدائے آفرینش سے وحوش و طیور اور کئی قسم کے حشرات الارض کی جائے پناہ بنی ہوئی تھی، انسان کے تیراؤر کدال کی بے پناہ قطع و بڑید کا شکار ہو چکی تھی۔

چند روز کے اندر اندر اولاد آدم کی محنت و دستبرد نے قدرت کے اس خود رو جنگل کی بے ترتیبی میں سلیقہ اور قرینہ پیدا کر کے اسے ریشک ارم بنا دیا اور سلیمان کے عساکر حضرت انسان کے شرف و فرمانفرمائی کا علم بلند کرتے ہوئے دڑوں کی راہ سے اس وادی کے اندر داخل ہونے لگے۔ باربرداری کے اُونٹ، خچر، گدھے، گھوڑوں کے رسالے، پیادہ فوج کے دستے، بھیڑوں، بکریوں اور دیگر چوپایوں کے گلے وادی کے میدان میں فروکش ہونے کے لئے اپنے مخصوص راستوں پر ہوئے۔ شیر، چیتے، گینڈے اور کئی قسم کے وحشی جانور تازیانہ انسان کی فرمان برداری کرتے ہوئے نمائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عقاب، شکرے، شاہین، بہریاں اور کئی قسم کے شکاری پرند سدھانے والوں کے ہاتھوں کا شکار ہو کر اقتدار انسانی کی اس نمائش میں شریک ہونے کے لئے چلے، مور، چکور، تیتڑ، بیڑ، کبوتر اور مختلف انواع کی دیگر ہوائی مخلوق انسان کی قوت تسخیر پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہوئی نمائش گاہ کی رونق بڑھانے کے لئے جمع ہونے لگی اور وادی کے شاہی دڑے کی راہ سے آنے والے نقاروں اور کرناؤں کے شور سے یہ پیغام سنایا کہ سلیمان کا تخت رواں اس نئی فرودگاہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔

تخت سلیمانی جس پر دُنیائے معلوم کا سب سے بڑا تاجدار متمکن تھا۔

ہوا کے مصنوعی تموج کی بدولت سطح زمین سے قد آدم کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ جلو میں درباریوں کی پرشکوہ سواریاں تھیں۔ جن کے پیچھے شتر سواروں کے دستے، گھوڑوں کے رسالے اور پیادوں کے لشکر پورے ساز و سامان سے آراستہ ہو کر نہایت ضبط و اہتمام کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ عساکر سلیمانی کے اس شاندار اجتماع نے جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا اور شاہی جلال کے رعب و ادب نے وادی کی کائنات کو انسان کی فوق الفطرت قوتوں کے اعتراف پر مجبور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ موجودات کا ذرہ ذرہ شکوہ انسانی کے اس ظاہری کرافر کو دیکھ کر اس شاہنشہ ارض و سما کے اقتدار کلی کا منکر ہو جائے جو قدرت کے مخفی اسرار کے لطیف اور غیر محسوس پردوں کے پیچھے بیٹھا کائنات ارضی و سماوی پر فرمانروائی کر رہا ہے۔

تحت سلیمانی جسے مصنوعی نسیم کا ایک ہلکا سا تموج چلا رہا تھا۔ دڑے کی راہ سے وادی میں داخل ہوا اور تاجدار کی نظریں چیونٹیوں کے ایک ہجوم پر پڑیں۔ جس میں عساکر انسانی کی اس یلغار کے باعث بھاگڑ پڑ چکی تھی۔ چیونٹیاں سراسیمگی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں اور لمحہ اضطراب کے نہایت مختصر سے وقفہ میں ایک دوسری سے منہ جوڑ جوڑ کر تیز تر سرعت رفتار کے ساتھ علیحدہ ہو جاتیں۔ تاجدار نے چیونٹیوں کی یہ بدحواسی دیکھ کر تحت رواں کو روک لیا۔ نقیبوں، برقدازوں اور فوجی افسروں نے دڑے کے اندر گونج پیدا کرنے والے نعروں سے جلوس کو ٹھہر جانے کا حکم دیا اور شوکت انسانی کا یہ بحر بے پایاں جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک متلاطم نظر آ رہا تھا دفعتاً تھم گیا۔ تاجدار نے تحت رواں سے اتر کر بارگاہ ایزدی میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے اہل دربار سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”اہل دربار! مالک حقیقی نے ہمیں اپنے انعام و اکرام کی جن غیر محدود

فیاضیوں سے نوازا ہے۔ ہم ان پر جس قدر بھی فخر و ناز کریں بجا ہے اور اس کی بے پایاں نعمتوں کا جس قدر بھی شکریہ ادا کر سکیں کم ہے۔ آج ہمارا جاہ و جلال اللہ کی سرزمین اور اُس کی موجودات پر حاوی ہو چکا ہے۔ عزت و دولت کے اس مالک و قادر کے احسانات کا میں کہاں تک ذکر کروں۔ کہ ارضی کی یہ حقیر ترین مخلوق چیونٹی بھی ہماری شان و شوکت کی شہادت دے رہی ہے اور اپنی ہم جنس چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ سلیمانؑ اور اس کے لشکروں نے وادی النمل پر چڑھائی کر دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں تلے روندی جاؤ اور انہیں تمہاری بے حقیقت سی ہستی کا احساس تک نہ ہو، اس لئے تم اپنی اپنی بلوں کے اندر چھپ جاؤ۔“ تاجدار نے کہا۔ ”میں اس سرفرازی اور سربلندی پر مغرور نہیں ہوں بلکہ اپنے پروردگار کے سامنے عاجزانہ طور پر التجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان احسانات اور انعامات پہ اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشے جو اُس نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ سے مجھے اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل مجھے اپنے نیک بندوں کے زمرہ میں شامل کر لے۔“

اس مختصر سے خطاب کے بعد جس کے دوران میں چیونٹیوں کو بلوں میں چھپ جانے کا موقع مل گیا۔ سلیمانؑ کا تخت رواں آگے بڑھا اور اس نے لاؤ لشکر سمیت میدان میں ڈیرے ڈال دیئے۔

اگلے روز عساکر کی موجودات کا جائزہ شروع ہوا اور تاجدار نے رباط و خیل، مال و منال، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے ہجوم کا معائنہ شروع کر



دیا۔ عساکر کی ٹولیاں، جانوروں کے گلے اور پرندوں کے جھلڑ اس فرمان فرما کے حضور میں پیش ہونے لگے، جو اللہ کے نام سے سطح ارضی پر حکومت کر رہا تھا۔ اونٹوں، گھوڑوں، نچروں، گدھوں اور دیگر جانوروں کا جائزہ لینے کے بعد تاجدار کی عنان توجہ طیور کی طرف منعطف ہوئی۔ صیغہ تربیت طیور کے مہتمم نے ہر نوع کے پرندے باری باری پیش کرنے شروع کر دیئے لیکن شاہین و دراج اور طوطی و سار کے اس زمرہ میں تاجدار کو ہڈ ہڈ نظر نہ آیا اور وہ اس کی غیر حاضری پر بہت برا فروختہ ہوئے۔ حکم صادر کیا گیا کہ ہڈ ہڈ آئے تو اسے حضور میں پیش کیا جائے۔ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اتنے میں افق آسمانی پر دُور سے ہڈ ہڈ نمودار ہوا اور اہل دربار اس فراموش کار کی بد بختی اور تلخ انجامی کا خیال کر کے کانپ گئے۔ ہڈ ہڈ نے تخت رواں کے قریب آ کر خلافت ارضی کے تاجدار کو سلام کیا اور نہایت مودبانہ انداز سے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ باز پرس کی گئی تو اُس نے سر ہلا ہلا کر اور اپنی منقار کو تخت رواں کے ایک پائے پر مار مار کر مختلف آوازیں نکالنی شروع کیں۔ تاجدار اس کی حرکات و سکنات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہڈ ہڈ کے اس عرض حال پر اُس کے لبوں پر تبسم آ گیا۔

تاجدار نے جو جانوروں کے مانی الضمیر کو اُن کی اصوات و حرکات سے سمجھ سکتا تھا۔ اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہڈ ہڈ نے اپنی غیر حاضری کی نہایت معقول وجہ پیش کی ہے اور اس کا قصور معاف کیا جاتا ہے۔ بشرطیکہ یہ وجہ صحیح ثابت ہو جائے۔ ہڈ ہڈ نے ہمیں ملک سببا کی خبر سنائی ہے۔ جہاں ایک ملکہ حکمران ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ملکہ اور اس کی رعایا خالق ارض و سما کے بجائے آفتاب کی پرستش کرتے ہیں اور ملکہ کا تخت خالص سونے کا ڈھلا ہوا ہے۔ جس میں جا بجا جواہر و الماس مرصع کئے گئے ہیں ہم ہڈ ہڈ کو اپنا پیغام

دے کر اس کی طرف بھیجتے ہیں اگر اس کا بیان درست ہوا تو ضرور ہمیں اپنے فرمان کا جواب موصول ہو جائے گا۔

کاتبِ خصوصی نے تاجدار کے حکم سے خط لکھا۔ جس پر خاتم سلیمانی سے مرثبت کی گئی۔ ہڈ ہڈ خط لے کر ملکہ سبا کی طرف روانہ ہو گیا۔

ملکہ سبا دربار عام لگائے اپنی رعایا کی معروضات سن رہی تھی کہ ہڈ ہڈ نے سلیمانؑ کا خط اس کے سامنے جا پھینکا۔ فضائے سماوی سے گرنے والے اس پڑزہ کو دیکھ کر ملکہ اور اس کے درباری بہت حیران ہوئے۔ ملکہ نے کاغذ اٹھا کر پڑھا اور قدرتی تامل و توقف کے بعد اہل دربار سے مخاطب ہو کر بولی:

”ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم مملکت کے ہر معاملہ میں تمہارا مشورہ لے لیا کرتے ہیں۔ یہ گرامی نامہ دُنیا کے سب سے بڑے تاجدار سلیمانؑ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس میں اس فرمان فرمانے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”ہم سے سرکشی نہ کرو اور تابع فرمان ہو کر ہمارے حضور میں حاضر ہو جاؤ۔ مشیرانِ سلطنت! اس اہم معاملہ میں تم ہمیں کیا رائے دیتے ہو؟“

دربار کے جنگی افسروں نے تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر عرض کی کہ ”ہم اپنی ملکہ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس فرمانروا کو ہماری طاقت و قوت اور ہمارے رُعب و جلال کا امتحان مطلوب ہے تو ہماری تلواریں ملکہ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں۔“

ملکہ سبا اپنے سرعسکر کی یہ تقریر سن کر جس پر تمام اہل دربار نے صا  
 کیا تھا، خاموش رہی اور قدرے توقف کے بعد بولی کہ ”ہماری رائے میں  
 سلیمان سے جنگ کرنا مصلحت اور دانشمندی کے خلاف ہے۔ اس فرمانروا کی  
 طاقت و قوت ہم سے کہیں زیادہ ہے اور جب فاتح بادشاہ کسی شہر میں داخل  
 ہوتے ہیں تو وہاں کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت  
 لوگوں کو ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں اس معاملہ  
 کو مصالحانہ طریق سے طے کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں اور اپنے سفیر کو تحائف  
 دے کر ان کی خدمت میں بھیجتی ہوں۔ دیکھوں! وہ ہماری اس صلح جوئی کا کیا  
 جواب دیتے ہیں؟“

اہل دربار نے نہایت خاموشی کے ساتھ ملکہ کا ارشاد سنا اور وزیر اعظم  
 نے مودبانہ انداز سے عرض کی کہ ”حضور کی دانشمندی اور معاملہ فہمی مسلم  
 ہے۔ سفارت بھیج کر صلح کی کوشش کر دیکھئے اگر سفارت اپنے مقصد میں  
 کامیاب ہو جائے تو بہتر، ورنہ ہمیں آپ کی خدمت میں اپنے سرکٹوانے میں  
 کوئی تامل نہ ہوگا۔“

ہُد ہُد ملکہ سبا کے دربار کی یہ گفتگو سن کر اڑا اور منزلیں طے کرتا ہوا  
 سلیمان کے دربار میں جا پہنچا۔ اُس نے ملکہ کے دربار کی ساری داستان اپنے  
 تاجدار کے سامنے دہرائی اور سلیمانی دربار میں ملکہ سبا کے ایلچی کا انتظار ہونے  
 لگا۔

چند روز کے اندر اندر ملکہ سبا کا ایلچی تاجدار کنعان کی خرودگاہ میں پہنچ

گیا۔ دربار میں حاضر ہو کر ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف گزارنے اور اس کی طرف سے سلیمان کی خدمت میں صلح کی درخواست پیش کی۔ تاجدار کنعان نے ملکہ کے تحائف واپس کر دیئے اور فرمایا کہ ”ہمیں آپ کے زرو جواہر کی ضرورت نہیں۔ خود ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ مال و منال ہے جو تمہارے سارے ملک سے جمع کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس امر کے خواہاں ہیں کہ ملکہ آفتاب کی پرستش چھوڑ کر اس مالک حقیقی پر ایمان لے آئے جو ارض و سما کا پیدا کرنے والا اور موجودات کا پالنے والا ہے۔ وہ اپنی رعایا کو بھی آفتاب کی پرستش چھوڑنے اور اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کرے۔ ہم اللہ کی طرف سے نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لئے مامور ہوئے ہیں اور ہمارا یہ جاہ و عظم بھی محض اسی کے نام کے اعلاء کے لئے ہے۔ ملکہ سے کہہ دو کہ یا تو وہ خود ہماری رسالت پر ایمان لانے کے لئے ہمارے حضور میں حاضر ہو جائے ورنہ ہم ایسا لاؤ لشکر لے کر اُس کے ملک پر دھاوا بول دیں گے، جو وہاں کے باشندوں کو اُن کی نافرمانی پر حتمی سزا دے گا اور انہیں ذلیل ہو کر رہنا پڑے گا۔“

ملکہ سبا کی سفارت یہ جواب لے کر واپس گئی۔ سلیمانی دربار میں آنے والی مہم کے متعلق چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ درباری اور عساکر ملکہ سبا کے آخری اور قطعی جواب کا انتظار کرنے لگے۔ چند روز میں ملکہ کا اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا آخری پیغام لے کر تاجدار کے دربار میں حاضر ہو گیا اور اطلاع دی کہ ملکہ ہفتہ عشرہ کے اندر اندر خراج اطاعت پیش کرنے کے لئے شاہی حضور میں حاضر ہو جائے گی۔

دربار سلیمانی میں ملکہ سبا کی اطاعت پر خوشیاں منائی جانے لگیں۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس کے طلائی تخت کا تذکرہ چھڑ گیا اور تاجدار کنعان نے

فرمایا کہ ملکہ سبا کو اپنے تخت پر بہت ناز ہے کیا ہمارے لشکر میں کوئی ایسا ماہر فن موجود نہیں جو تخت یہاں اٹھالائے۔

تاجدار کے اس ارشاد کو سن کر دربار کا ایک دیو ہیکل پہلوان بول اٹھا کہ جہاں پناہ! اجازت ہو تو میں جاؤں اور دربار برخواست ہونے سے پہلے پہلے ملکہ سبا کا تخت اٹھالائوں۔ سلیمان کے دانا وزیر آصف نے سینہ پر ہاتھ رکھ کر نیاز مندانہ عرض کی۔ ”قبلہ عالم! اگر اس عاجز کو ارشاد ہو نو طرفۃ العین میں ملکہ سبا کا تخت طلائی حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دے۔“

اہل دربار وزیر اعظم کے اس غیر معمولی دعوے پر چونک پڑے اور تاجدار کنعان نے مسکرا کر فرمایا۔ ”آصف! ہمیں تمہارے کمالات میں کلام نہیں، لیکن ان درباریوں پر جو تمہارے دعویٰ کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنی حیرت انگیز قابلیت و استعداد کا اظہار کرنے کے لئے اپنے قول کو عمل کا جامہ پہنا کر دکھاؤ۔“

آصف نے سر جھکا کر ”بہ سرد چشم“ کہا اور خادم کو دربار کا ایک پردہ ہٹا دینے کے لئے اشارہ کیا۔

پردہ اٹھا۔ تو ملکہ سبا کا طلائی تخت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سامنے دکھانظر آیا۔ اہل دربار آصف کا یہ حیرت انگیز شعبدہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ وزیر اعظم کو اسم اعظم کا عمل یاد ہے کسی نے اسے جاو سے تعبیر کیا اور کوئی آصف کی دانائی کی تعریف کرنے لگا۔ کہ اس نے اپنے فرماں روا کے رجحان طبع کو بھانپ کر پہلے ہی سے تخت منگوانے کا انتظام کر رکھا تھا۔

تاجدار کنعان آصف کا یہ کمال دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ تخت کی ہیئت کسی حد تک تبدیل کر دی جائے تاکہ ملکہ سبا کی شہرہ آفاق

دانشمندی کا امتحان ہو سکے۔

دوسرے دن ملکہ سبا کے ایلچی نے اطلاع دی کہ ملکہ معظمہ بہ نفس نفیس تاجدار کنعان کے سامنے خراج اطاعت پیش کرنے کے لئے تشریف لا رہی ہیں۔ ملکہ سبا کے خیر مقدم کے لئے عالی شان دربار منعقد کیا گیا اور سلیمان کے تخت رواں کے پاس ملکہ کے لئے خود اسی کا تخت طلائی بچھا دیا گیا۔ جس کی ہیئت کسی حد تک تبدیل کر دی گئی تھی۔

ملکہ اپنے درباریوں کے ہمراہ دربار شاہی میں داخل ہوئی اور رسمی سلام و پیام کے بعد نشست کے لئے تخت طلائی پیش کیا گیا۔ تاجدار کنعان نے کہا۔ ”ملکہ! ہم نے آپ کے تخت طلائی کی بے حد تعریف سنی ہے۔ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر آپ تشریف فرما ہیں یا اس سے بھی اچھا ہے۔“

ملکہ نے نقاب کی جالی میں سے تخت کو پورے غور و تعمق کے ساتھ دیکھا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولی! ”تاجدار مجھے تو یہ تخت ہو ہو میرا ہی عرش طلائی معلوم ہوتا ہے۔“

ملکہ کا یہ جواب سن کر سلیمان کے لبوں پر ایک معنی خیز تبسم کھیلنے لگا جس میں ملکہ کے ظنی دعوے کی اثباتی جھلک صاف طور پر نمایاں تھی۔ اس پر ملکہ سبا نے کہا۔ ”جہاں پناہ! مجھے حضور کی غیر معمولی کمالات کا مدت سے اعتراف تھا اور میں ایک عرصہ سے جانتی تھی کہ حضور خدا کے برگزیدہ شاہنشاہ ہیں اور آپ کی طاقت و قوت بے اندازہ ہے لیکن محض اپنی قوم کی ہٹ دھرمی کے باعث جو آفتاب کی پرستش کرتی ہے اور خدا کو نہیں مانتی میں اپنے

آپ پر ظلم کرتی رہی۔“

تاجدار کنعان نے فرمایا۔ ”یہ بھی میرے پروردگار کا فضل و احسان ہے جس نے مجھے آصف سے دانا مشیر دے رکھے ہیں اور اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے مامور فرمایا ہے۔“

اس گفتگو کے بعد سلیمانؑ ملکہ سبا کو محل شاہی کی طرف لے چلے۔ ملکہ سبا جسے اپنے دربار کے عجائبات اور اپنی سلطنت کے تمول پر ح سے زیادہ ناز تھا۔ دربار سلیمانی کے شان و شکوہ کو دیکھ دیکھ کر ششدر ہو رہی تھی اور یہاں کے ضبط و نظام اور حُسن انتظام کی ایک ایک شق دیکھ کر اُس کی عقل و رطہ حیرت میں غرق ہوئی جاتی تھی۔ ملکہ سبا کو اپنی دانشمندی پر بہت ناز تھا لیکن اس دربار کی ہر بات اسے فوق الفطرت نظر آ رہی تھی اور اس کا یہ خیال پختہ ہو ہو کر یقین کی صورت اختیار کر رہا تھا کہ تاجدار کنعان فی الواقع خدا کا برگزیدہ نبی ہے اور وہ اور اس کی قوم آفتاب کی پرستش کرنے میں سخت غلطی کی مرتکب ہوتی رہی ہے۔

ملکہ سبا خواصوں کے ہجوم میں شاہی محل میں داخل ہوئی اور قصر سلیمانی کے اولین دالان میں اسے بہتے ہوئے صاف اور شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی نہر نظر آئی۔ جس کے عبور کرنے کے سوا اس طرف پہنچنا غیر ممکن تھا۔ اس نہر میں صاف پانی کی نیلاہٹ اور ہلکی ہلکی موجوں کی غلطانی کچھ اس طرح کی و لفریبی بلکہ نظر فریبی پیدا کر رہی تھی کہ ملکہ سبا نے جو خواصوں کے آگے آگے تھی، پانی میں اترنے کے لئے اپنی بلوریں پنڈلیاں کھول دیں اور ازار کو گھٹنوں تک اُوپر اٹھا کر نہر میں قدم رکھنے کے لئے آگے بڑھایا۔ اس پر سلیمانؑ ہنس دیئے اور خواصوں نے بھی ایک فرمائشی قہقہہ لگایا۔ ملکہ سبا نے اپنا بڑھا ہوا قدم فوراً کھینچ لیا اور مستفسرانہ انداز سے اس ہنسی کی وجہ معلوم

کرنے کے لئے تاجدار کنعان کی طرف دیکھا۔ سلیمانؑ نے کہا کہ ملکہ یہ پانی کی نہر نہیں بلکہ شیشے اور بلور کا ایک فرش ہے۔ جس میں ہمارے نقاش کی قلمکاری نے موجوں کی غلطانی کا سراب پیدا کر دیا ہے۔ ملکہ سبا یہ سن کر اپنی نارسائی فہم پر بہت نادوم ہوئی۔ اسے خیال آیا کہ میں نے قواریر کے فرش کو دیکھ کر اسے پانی کی نہر سمجھا۔ اس لئے کہ اس میں انسانی ہاتھوں نے پانی کی سی جھلک پیدا کر دی تھی۔ میری قوم آفتاب کی پرستش کرنے میں کہیں اس قسم کے مغالطہ نظری کا شکار تو نہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ آفتاب فی ذاتہ معبود نہیں۔ بلکہ اس معبود حقیقی کے جلال کا منظر ہے۔ جس نے اُسے اور دوسری اشیاء کو پیدا کیا اس نکتہ کے سمجھنے کی دیر تھی کہ اُس نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا:-

”میں آپ کی رسالت و نبوت پر صدقِ دل سے ایمان لاتی ہوں اور آپ کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اقرار کرتی ہوں پروردگار سے اپنی گزشتہ خطاؤں کے لئے طلبِ عفو کرتی ہوں۔ مجھے آئندہ کے لئے اپنی کینروں کے زمرہ میں شمار کیجئے اور میری مملکت کے بے راہرو بندوں کی ہدایت و رہنمائی فرمائیے۔“

بعد کے چند روز میں آسمان کی جہاں بین آنکھ نے دیکھ لیا کہ ملک سبا کی موجودات بھی حضرت سلیمانؑ کے ہمہ گیر اقتدار کی حلقہ بگوش ہو رہی ہیں۔ گمراہ انسانوں کے گروہ جوق در جوق اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں اور کائنات سے ملکہ سبا کے اس قول کی صدائے بازگشت اُٹھ رہی ہے کہ:

رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی  
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰہِ  
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط

اے میرے پروردگار! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، لیکن اب میں سلیمان کے ہمراہ اس اللہ پر جو جہانوں اور عالموں کا پالنے والا ہے ایمان

لے آئی ہوں۔



## قیدِ ظلمات

تبلیغ کے نتائج سے مایوس انسان کی سزا اور معافی

سرزمین عراق کی ایک متمدن بستی جس کی آبادی کا شمار ایک لاکھ نفوس سے کچھ اوپر ہوگا، ضلالت و گمراہی کا شکار ہو چکی تھی۔ کفر و طغیان کی تیرہ و تار گھٹائیں اس بستی پر محیط ہو رہی تھیں۔ جن میں شرک و الحاد کی بجلیاں کوندتیں اور باشندوں کے خرمن عقائد پر دن دیھاڑے ڈاکے ڈالتیں۔ شب و روز فسق و فجور کی سینات کے ہیبت ناک طوفان اٹھتے اور وہاں کے متمدن شہریوں کی زندگی کا توازن برباد کر جاتے۔ عام جلسوں اور شاہراہوں پر علی الاعلان خدا کی ہستی کا انکار کیا جاتا اور سلف صالحین کے بتائے ہوئے نیک طریقوں اور آسمانی ضابطوں سے استہزاء و استحقار کا سلوک روا رکھا جاتا۔ عوام کی طبیعت مذہب کی پابندیوں سے سیر ہو چکی تھی اور الہامی قوانین کی زنجیریں فرسودہ اور بوجھل سمجھ کر توڑ دی گئی تھیں اور اس بستی کے رہنے والوں میں خیال کی وحدت اور بود و باش کی یکسانی جو تمدن انسانی کے لئے رُوح حیات کا درجہ رکھتی ہے یک قلم مفقود ہو چکی تھی۔ ہر شخص اس قدر خود غرض ہو رہا تھا کہ بے دریغ دوسرے کے حقوق غصب کرتا اور ذاتی عیش و آرام کی خاطر ہر طرح کے ناجائز ذرائع استعمال میں لاتا۔ عقائد کی افتادگی اور عصیان کی بدتمیزی نے اس شہر کا امن متزلزل کر رکھا تھا اور ہر طرف فتنہ و فساد کی

چنگاریاں اٹھتی دکھائی دیتی تھیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ انسانوں کی یہ بھیڑ جو انسانیت کا جامہ چاک کر چکی ہے۔ اپنے حیوانی اوضاع و اطوار کی بدولت اسلاف کی کمائی کو خاک میں ملا دے گی اور اس بستی کا تمدن جسے اُس کے آباؤ اجداد نے سالہا سال کی محنت شاقہ کے بعد اوجِ کمال تک پہنچایا تھا تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔

اس بستی کے ایک ہوشمند شہری یونس کی نکتہ رس نظریں وہاں کے باشندوں کی بے راہ روی کو دیکھ رہی تھیں اور اُن کے ہولناک انجام کا خیال اُسے ہر لحظہ بے قرار رکھتا تھا۔ وہ سوسائٹی کی تمام خرابیوں کو دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں پیچ و تپ کھا کر رہ جاتا۔ اس کا دردمند دل ایک مدت سے بستی والوں کی نازیبا حرکات پر سلگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رات کی خاموش تاریکیوں میں اس بد بخت قوم کے خوفناک انجام کو سوچ کر جو اس کے سروں پر منڈلا رہا تھا خون کے آنسو بہاتی تھیں۔ آخر اس جوانمرد کے دل میں ضبط کا یارا نہ رہا اور اُس نے تباہی کی طرف جانے والے شہریوں کی اصلاح کا علم بلند کر دیا وہ ہر محفل میں جا کر لوگوں کو اُن کی ہلاکت آفرین بڑائیوں پر انتباہ کرتا، ہر میلہ میں پہنچ کر ہدایت اور نیکی کے وعظ کہتا اور ہر شخص سے مل کر قوم کی بد بختی کا تذکرہ چھیڑتا لیکن لاکھ سو لاکھ کی آبادی میں کوئی فرد واحد بھی اسے اپنا ہمدرد نظر نہ آیا۔ اس نے سب کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے دیکھے اور ہر کہ و مہ کو اس ہولناک انجام سے کھینچتا بے خبر پایا۔ جس کی طرف وہ دوڑے چلے جا رہے تھے وہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ان غفلت شعاروں کے انتباہ کی جدوجہد میں صرف کر چکا تھا، لیکن بڑائیاں جو وہاں کی روزمرہ زندگی میں گھر کر چکی تھیں۔ افزوں تر ہوتی چلی گئیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں سوسائٹی کی پابندیوں سے بے اعتنائی کرنے بلکہ انہیں توڑنے کا شوق

پیدا ہو چکا ہو۔ جن کے دماغ عقائد کے لحاظ سے مائل بہ الحاد ہو چکے ہوں وہ کسی ریفارمر کی باتوں پر التفات نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ یونیس کی قوم نے بھی اپنے مصلح قومی کی پروا نہ کی۔ بلکہ اس کی اصلاحی سرگرمیوں سے تنگ آ کر اس اکرام و احترام کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، جو یونیس کو اپنی قوم اور شہر کے اندر حاصل تھا۔ گلیوں، کوچوں، بازاروں اور مجلسوں میں اس کی تبلیغ کا استہزا ہونے لگا اور لوگ اس ہادی و مہدی کو دماغ باختہ قرار دے کر اسے ذلیل و خوار کرنے پر اتر آئے۔

یونیس اگرچہ بہت اولوالعزم شخص تھا اور جس کام کے لئے اُس نے کمر ہمت باندھ رکھی تھی اسے تکمیل تک پہنچانے کے لئے ثبات قدمی کے ساتھ جدوجہد کرتا رہا تاہم سالہا سال کی محنت شاقہ کے بعد جب اُس نے دیکھا کہ میری مساعی بار آور نہیں ہوتیں اور ایک طویل مدت کی شبانہ روز تلقین و تبلیغ کے باوجود لاکھ سوا لاکھ انسانوں کی اس آبادی میں ایک متنفس بھی میرا ہم خیال نہیں بنتا تو اس کا دل اصلاح حال کی طرف سے مایوس ہو گیا۔ ناکامی کے احساس نے اُس کے حوصلے پست کر دیئے اور اہل شہر کے تغافل و تجاہل نے اس کی رُوح کو بتلائے آلام کر دیا اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اسے وہاں کے باشندوں کی کم فہمی پر اس قدر غصہ آیا کہ اُس نے اشتعال کے چند لمحوں میں اپنے دل سے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس بستی سے کہیں دُور نکل جاؤں گا اور پھر اس طرف آنے کا نام تک نہ لوں گا۔ جس کے باشندے اپنے نفع و نقصان کی طبعی تمیز کھو بیٹھے ہیں اور سالہا سال کے پیہم انتباہ کے باوجود اپنی بد حالی اور اپنے انجام کی ہولناکی سے آگاہ نہیں ہوتے۔

یونس اپنے دل میں یہ تہیہ کر کے اپنی زاد بوم سے نکل کھڑا ہوا۔ چند روز کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ بحرِ زخار کے ایک ساحل پر پہنچا اور ایک کشتی پر جو مسافروں کو پار لے جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی، سوار ہو گیا۔ کشتی بادِ مراد کے جھونکوں کے سامنے بادبان اڑائے پانی کے سینہ کو چیرتی ہوئی مسافت طے کر رہی تھی۔ سرِ شام سمندر کی موجیں متلاطم ہونے لگیں۔ ہوا جو دن بھر ایک انداز پر چلتی رہی تھی۔ آندھیوں اور بگولوں میں تبدیل ہو گئی۔ کشتی ڈگمگانے لگی۔ امواج بحر کے اندر زور کی کشمکش ہو رہی تھی۔ ہوا کے تیز اور تند جھونکے کبھی کشتی کو اس طرف لے جاتے تھے۔ کبھی اُس طرف لے جاتے تھے۔ کبھی ایک ہی ریلے میں دوسری طرف پہنچا دیتے تھے۔ ملاحوں نے بادبان گرا دیئے اور لنگر ڈال کر متلاطم امواج کے جزر و مد کی طرف خوف آمیز نگاہوں سے گھورنا شروع کیا۔ کشتی نشینوں کے دل سم گئے۔ ان کے کلیجے دھڑکنے لگے۔ چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کشتی چکر کھاتی ہوئی ایک ہولناک گرداب کی لپیٹ میں گرفتار ہو گئی اور سب کو یقین ہو گیا کہ سمندر کی عمیق تہیں ان سب کی آخری آرامگاہیں بنیں گی۔ حیوانات آبی ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اور باد و آب کے غضب آلود ارباب النوع ان کے خون پی پی کر اپنی سفاکانہ ہوس کی پیاس بجھائیں گے۔

مسافر اپنی اپنی جگہ بیٹھے پتھرائی ہوئی نظروں سے طوفان کی نیرنگیوں کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ کشتی کے ایک کونے سے جل دیوتا کی قربان گاہ پر انسانی قربانی پیش کرنے کی تحریک ہوئی۔ دو چار کشتی نشینوں نے اس خیال کی تائید کر دی اور مسافروں کے درمیان اس تجویز کے متعلق چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ ملاح منتظر تھے کہ دیکھیں سو ڈیڑھ سو انسانوں کے اس مجمع میں کون ایسا جوان مرد نکلتا ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لئے برضا و رغبت آمادہ

ہو جائے۔

اگرچہ طوفان بہت ہولناک صورت اختیار کر چکا تھا اور کشتی گرداب میں اُلجھ کر چکر پر چکر کھا رہی تھی موجیں لفظ بہ لفظ شدت اختیار کرتی جاتی تھیں اور بظاہر سلامتی و نجات کی کوئی اُمید باقی نہ رہی تھی تاہم کشتی والوں میں ایک متنفس بھی ایسا نہ نکلا جو دوسروں سے ذرا پہلے جان دینے کے لئے تیار ہو جاتا اور بیسیوں انسانوں کی جان بچانے کے بلند مقصد کی خاطر خود جل دیوتا کے غیظ و غضب کی بھینٹ چڑھ جاتا۔

آخر سب کی یہی صلاح ٹھہری کہ قرعہ ڈال کر ایسے شخص کا نام معلوم کر لیا جائے جس کی نحوست کے باعث سمندر کا دیوتا اس قدر برا فروخت ہو رہا ہے اور قرعہ میں جس بد بخت کا نام نکلے۔ اُسے موجوں کے ان خوفناک تھپیڑوں کے سپرد کر دیا جائے، جس کے اندر نہنگ اجل اپنا ہولناک منہ کھولے ان سب کا انتظار کر رہا ہے۔

قرعہ ڈالا گیا تو اس شخص کے نام پر نکلا، جو اپنی قوم کے عقائد کی خرابیوں سے تنگ آ کر اور اصلاح حال کی کوششوں میں مایوس ہو کر وطن سے ہجرت کر رہا تھا۔ ملاحوں نے یونسؑ کو پکڑ کر بے دریغ سمندر میں دھکیل دیا اور طوفان کی تلاطم خیزیوں نے ان انسانوں کی سفاکی اور خود غرضی کا زہرہ گداز مظاہرہ دیکھ لیا جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی۔

ادھر آفتاب عالمتاب افق مغرب کے تاریک غار میں روپوش ہوا۔ ادھر یونسؑ کو جسے انسان کی نفس پرستی نے اوہام باطلہ کی تسکین کے لئے امواج متلاطم کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک نہنگ آبی نے دیوچ لیا اور یونسؑ شکم ماہی کے قید خانہ ظلمات میں اسیر ہو گیا۔

نہنگ آبی سالم زندہ انسان کو نگل کر تیرہ و تار موجوں کی تسوں میں

غائب ہو گیا اور کشتی دو چار ہچکولے کھا کر سمندر میں غرق ہو گئی۔

غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی رات کی تاریکی سائیں سائیں کرتی ہوئی بحرِ مواج پر چھا گئی۔ مہیب اور تاریک موجیں رات کی سیاہی کو اور بھی دہشت ناک بنا رہی تھیں۔ آسمان پر تیرہ و تار گھٹائیں چھا رہی تھیں اور یونسؑ نہنگِ آبی کے تاریک شکم کے اندر بے حس و حرکت پڑا اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں خدا کو یاد کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کال کو ٹھٹھی میں بند ہو جانے پر اس کے حواسِ ظاہری معطل ہو چکے تھے تاہم ابھی اُس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ اُس کا متحرک دل اُس کی زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ خدا کا یہ برگزیدہ بندہ شکمِ ماہی کے اندر پڑا سوچ رہا تھا کہ قدرتِ کاملہ کے دستِ توانا نے کس جرم کی پاداش میں مجھے ظُلُمَاتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ کے اس زنداں میں اسیر کر دیا ہے اور میرے لئے۔ کیوں ایسی ہیبت ناک موت تجویز کی گئی ہے۔ معاً اُسے خیال آیا کہ میں اپنا فرض منصبی چھوڑ کر بھاگا ہوں اور میرا پائے ثبات و استقلال زبردست لغزش کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس کی رُوح بے قرار ہو گئی۔ مشیتِ ایزدی کی کرشمہ سازیوں نے اس کے دل کی آنکھیں کھول دیں اور اس کی زبان پر بے ساختہ یہ کلمات جاری ہو گئے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ط

”تمام کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیری شانِ پاک ہے اور میں فی الواقع ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔“

یونسؑ (علیہ السلام) اس آیتِ کریمہ کا ورد کرتے اور استغفار پڑھتے بیہوش ہو گئے۔ نہنگِ آبی امواجِ متلاطم کے بے پناہ تھپیڑوں سے امان طلب کرتا ہوا خشکی پر چڑھ آیا اور کنارِ آب سے کچھ دُور جا کر جھاڑیوں میں لیٹ گیا۔ امانت جو اُس نے خوراک سمجھ کر اپنے پیٹ میں ڈال رکھی تھی۔ اُس کی

طاقت برداشت سے بہت بھاری ثابت ہوئی اور اُس نے یونسؑ کو جس طرح نکلا تھا اسی طرح اُگل دیا۔ نہنگ آبی خود سمندر کی امواج متلاطم کے اندر غائب ہو گیا۔

یونسؑ رات بھر غشی اور بیہوشی کے عالم میں وہیں پڑا رہا۔ صبح ہوئی تو ایک سرسبز بیل نے اُس کے جسم نزار کو جو شکم نہنگ میں پھنس کر گوشت کا ایک ٹوٹھا بن گیا تھا ڈھانپ لیا۔ یونسؑ کو کئی دن اسی عالم میں گزر گئے۔

ایک روز تمازتِ آفتاب نے یونسؑ کے نیم مُردہ جسم میں حرکت پیدا کر دی اور اُس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ عالم خود فراموشی سے عالم حس و تمیز میں آ گیا۔ اس کی زبان پر وہی کلمات جاری تھے جو شکم نہنگ کے اندر اُس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلے تھے۔ وہ اس آیہ کریمہ کا ورد کر رہا تھا کہ:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ط

یونسؑ نے اپنے آپ کو از سر نو عالم نور و باد میں دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا اور اپنی لغزش سے تائب ہو کر پھر اسی بستی کی راہ لی جس کے باشندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے وہ قدرت کی طرف سے مامور ہو چکا تھا۔

اُس نے بستی میں پہنچ کر تبلیغ و ارشاد کا کام نئے جوش اور تازہ ولولہ کے ساتھ شروع کر دیا۔ اس کے پائے استقلال میں پھر کبھی لغزش نہ آئی۔ اب اُس کی مسائی بار آور ہونے لگیں اور وہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف مدعو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بستی مختلف قسم کی آفاتِ ارضی و سماوی کی آماجگاہ بننے سے محفوظ ہو گئی۔

یونسؑ کی داستانِ انسان کے لئے یہ سبق چھوڑ گئی کہ مصاعین اقوام کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہیں آنی چاہئے اور نیکی کی جدوجہد کو ضرور ہوتا دیکھنے کے لئے بے صبری سے کام نہیں لینا چاہئے۔

## طوفانِ آب

پانی کا چالیس روزہ طوفان خدا کے باغی شریک انسانوں کو بہا کر لے گیا

”متوسلح کا پوتا باؤلا ہو گیا۔“ ”لمک کا بیٹا عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا۔“  
 ”نوح کا دماغ چل گیا۔“ یہ اور اسی قبیل کے دوسرے فقرات تھے جو اولادِ آدم کی اس متمدن بستی میں ہر کہ و مہ کی زبان پر سنائی دے رہے تھے، جسے نوعِ انسان کی ابتدائی کوششوں نے وادیِ فرات کے ایک مقام پر تعمیر کر رکھا تھا۔ آدم نے اپنی اولاد کو محبت و رافت اور حلم و مساوات کے ساتھ رہنے کی تلقین کی تھی اور اس امر کی تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں، اپنے دماغوں اور اپنے بدنوں کی متحدہ مشقتوں سے اس کرۂ ارضی پر اسی قسم کی جنت تعمیر کر لیں جس سے آدم و حوا کو اپنی ایک معمولی لغزش کے باعث نکلنا پڑا تھا تاکہ ان کی اولاد معاش کے جھمیلوں سے نجات پا کر پوری فراغت قلبی کے ساتھ خدائے قدوس کی بارگاہ میں ان کے اس جرم کے لئے مغفرت کی طالب ہو سکے جو اغوائے شیطانی کے باعث ان سے سرزد ہو چکا تھا اور انہیں ہر قسم کی ارضی و سماوی مصیبتوں کی آماجگاہ بنانے کا موجب بنا تھا۔ آدم نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی اولاد میں سے وہی لوگ حیات جاودانی و عیش غیرفانی کی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے جو اپنے خالق و مالک کے ساتھ عبودیت کے رشتے استوار کر کے اعمالِ صالح کے مرتکب ہوتے رہیں گے، اپنے نوعی



بھائیوں کا حق پہچانیں گے، نہ اپنی جانوں اور اپنے جسموں پر ظلم کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ نہ دُوسروں کو اپنے جور کا تختہ مشق بنائیں گے جو صداقت شعاری، حق پرستی، حق شناسی اور حق رسی کی راہ پر چلیں گے اور خدا کے ان نیک بندوں کے طریق پر کاربند ہوں گے جو خدائے قدیر کی طرف سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خدمت پر وقتاً فوقتاً مامور ہوتے رہیں گے۔ یعنی اس مقصد عظیم کے حصول کے لئے پوری کوشش کریں گے جس کی تڑپ نوعِ انسانی کے ہر فرد کے دل میں موجود ہے اور جس کے لئے اس صاحبِ فہم و شعور مخلوق کی تخلیق عمل میں لائی گئی ہے۔

اگر آدمؑ کی اولاد بحیثیت مجموعی اپنے بزرگ باپ کی نصیحتوں اور وصیتوں پر عمل پیرا ہوتی تو اس کے لئے اس عالمِ ارضی کی تمام مشکلات پر قلیل سی مدت میں قابو پالینا اور قوائے فطرت کو مسخر کر کے اپنے آپ کو خدائی مغفرت و انعام کا مستحق بنا لینا نہایت آسان کام تھا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ چند پشتوں کے اندر اندر یعنی نوح علیہ السلام کے دادا متوسلح کی پیدائش سے بہت پہلے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتی۔ ارض و سما کی برکتوں کے تمام دروازے اس پر وا ہو جاتے۔ کائنات کی ظاہری اور مخفی قوتیں اُس کے سامنے سر بسجود ہو جاتیں۔ کانٹے چھانٹ کر الگ پھینک دیئے جاتے اور ان کی جگہ سدا بہار پھول نکل آتے۔ ہر طرف حسنت کی حکم فرمائی ہوتی اور نوعِ انسانی کا گھرانہ اسی جنت الفردوس میں بن جاتا جس کی حدیں لامتناہی اور جس کے عیش لازوال ہیں۔ جہاں کلفتوں کا نام و نشان نہیں اور صعوبتیں وہم و گمان میں نہیں آسکتیں۔

لیکن آدمؑ کی اولاد آدمؑ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک چکی تھی۔ کرۂ ارضی پر بُود و باش کرنے کی صعوبتوں نے انہیں خود غرضیوں کا شکار بنا دیا۔

وہ ایک دوسرے کا حق غصب کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و تعدی سے پیش آنے لگے۔ زیر دستوں نے زیر دستوں کو دبا لیا، طاقتوروں نے کمزوروں کا تپا پانچہ کر ڈالا، عصیاں و عدوان کے نشہ نے انہیں فسق و فجور میں جلا کر دیا۔ انسانیت ذلیل ہو گئی۔ نوع انسانی کے افراد میں بہائم کی صفات عود کر آئیں۔ آدم کا بنایا ہوا طرزِ وجود و ماند گلدستہ طاق نسیان بنا دیا گیا اور اس کی جگہ طاقت کے بل پر اقتدار حاصل کرنے والوں نے عامتہ الناس کو اپنے بنائے ہوئے دستور کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر لیا جو ان کی اغراض نفسانی پر مبنی تھا۔ کائنات ارضی و سماوی کے مالک و مختار کا خوف دلوں پر سے کپاٹور ہو گیا اور اس کی جگہ اسی زمین کے قاہروں اور جابروں نے انسانوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانی شروع کر دیں۔ دیوتاؤں کی پرستش ہونے لگی اور کائنات کی عقلی قوتیں جو نوع انسانی کی راست دھوی کی حالت میں اُس کی مدد و مددگار بنتیں اور اُس کے کہنے پر چلتیں۔ اُس کی مخالفت پر صف آرا ہونے لگیں۔ انسان کی یہ کاریوں نے نہ صرف اپنی سوسائٹی کو مکروہ اور گھناؤنا بنا لیا۔ بلکہ کائنات ارضی و سماوی میں حُسن پیدا کرنے کے بجائے اُس میں بد صورتی اور بدنمائی پیدا کر دی۔ کیونکہ انسان کے اعمال کی صدائے بازگشت ساری کائنات میں گونجتی اور چکر لگاتی ہے ان ستاروں کو بھی متاثر کرتی ہے جو کہ ارضی سے آربا آرب سل کی مسافت پر واقع ہیں انسانی ضماہر کے اندر نیک یا بد خیالات کے جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں وہ ان عناصر کے اندر ہیجان پیدا کر دیتے ہیں جن کی ترکیب سے یہ مادی کائنات معرض وجود میں آئی ہے۔ ظلم و جہول انسان اگر اس حقیقت سے بے خبر ہے تو ہو لیکن خدائی قانون یہی ہے اور اسی پر کائنات کے نظام کا دارومدار ہے۔

یہ حالات تھے جب نوحؑ نے حکمت و شعور حاصل کرنے کے بعد اپنی

قوم کے مصائب کو بھلانا اور انہیں اصلاح کرنے کی تلقین شروع کر دی۔ نوحؑ نے کہا کہ اے راہ گم کردہ لوگو! تم نے اس قادر مطلق کے احکام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، جو ارض و سما میں حکم فرما ہے، تم نے اس غشا کو فراموش کر دیا ہے جس کے لئے تمہاری تخلیق معرض وجود میں لائی گئی تھی۔ تم اپنے جسموں اور اپنی جانوں نیز اپنی سوسائٹی کے اندر محاسن پیدا کرنے کے بجائے مصائب فراہم کر رہے ہو جس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہلاکتیں اور بربادیاں تم پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں اور تم نیست و نابود ہو جاؤ۔

نوحؑ لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی بُرائیاں دُور کرنے کی تلقین کرتا تھا، لوگ اس کی باتوں کو پاؤر ہوا سمجھ کر اُس سے استہزا کرتے تھے۔ نوحؑ کہتا تھا کہ اے صراطِ مستقیم سے بھٹکے ہوئے انسانو! تمہارا عصیان و عدوان اپنی معراجِ کمال کو پہنچ چکا۔ تمہاری یہ کاریوں نے اپنی آخری حد دیکھ لی۔ تمہارے ظلم نے مظلومین کے دلوں میں بیچارگی کے احساس کا ایک خوفناک طوفان برپا کر دیا اور وہ وقت نزدیک آ رہا ہے جب قدرت کی مخفی قوتیں تمہارے سروں پر ٹوٹ پڑیں اور تمہیں ان بد اعمالیوں کی قرار واقعی سزا دیں، جن میں تم جتلا ہو رہے ہو، لیکن فسق و فجور کی بد مستیوں میں سرشار انسان اسے مخبوط الحواس قرار دیتے اور کہتے تھے کہ ہم کونسی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دُنیا کا دستور یہی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اور زندگی کا طریق وہی ہے جس پر ہم کاربند ہیں۔

سالہا سال تک کسی نے نوحؑ کی باتوں کو درخورِ اعتنا خیال نہ کیا۔

برسوں کی محنت کے بعد چند انسانوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کے پیغام کو صحیح قرار دیا۔ اُس کے نصائح کو قابلِ عمل اور اس کے احکام کو واجب الازعان سمجھا۔ یہ حال دیکھ کر بستی کے ان قاہر انسانوں کو اپنے اقتدار کے چھن جانے کی فکر لاحق ہونے لگی۔ جنہوں نے انسانوں کے گلوں کو بیچارگی کی حالت میں پہنچا کر اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ نوحؑ کی ذات میں اپنے اقتدار کے لئے ایک مستقل خطرہ کا سرچشمہ دیکھنے لگے۔ جس کی سوتوں کو بند کرنا ان کے لئے فرض لازم ہو گیا۔ انہوں نے نوحؑ کو اپنے اجلاس عام میں طلب کیا اور اس سے اس کی سرگرمیوں کے متعلق باز پرس کرنے لگے۔ نوحؑ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زبان پر ٹہر خاموشی لگا دے، اپنے خیالات کی اشاعت یک کلم بند کر دے۔ ان کے دیوتاؤں کی طاقت و عظمت کا اعتراف کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر تم نے اپنی عجیب و غریب باتیں سنا سنا کر رزیلوں اور کمینوں کو پھسلانے کا معرکہ جاری رکھا تو سنگسار کر دیئے جاؤ گے۔ مملکت اریدو کی متمدن سوسائٹی ایسی پادر ہوا باتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی جو نہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے سنی اور نہ کسی اور بافوق الفطرت ہستی نے ہمیں بتائیں۔ نوحؑ پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے کو خدا کا پیغمبر ظاہر کر کے دنیوی اقتدار کے حصول کا متمنی ہے۔ جمعیت بنا کر قوم کا سردار بننا چاہتا ہے۔ رزیلوں کو ابھارنے اور رؤساء کو گرانے کا خواہاں ہے۔

نوحؑ نے جواب دیا۔ غافل انسانو! میں تمہیں تمہاری بھلائی کی راہیں دکھاتا ہوں۔ اگر تم نے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عظمت و جلال کے سامنے سرنیاز نہ جھکایا اور ظلم و طغیان سے ہاتھ نہ کھینچا تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ میری رُوح کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ قدرت کی مخفی قوتیں تمہارے لئے ایک خوفناک طوفان لانے کا بندوبست کر رہی ہیں جو

تمہاری بستیوں کو ویران کر دے گا۔ تم سب غرق ہو جاؤ گے۔ تمہارا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ مجھے تمہارا سردار بننے کی خواہش نہیں۔ میں دولت فراہم کرنے کا متمنی نہیں، میں اس قومی خدمت کے لئے جو بجالا رہا ہوں تم سے کسی قسم کے اجر کا خواہش مند نہیں۔ قوم کے سردار تمہی بنے رہو لیکن ظلم و طغیان سے باز آ جاؤ۔ ان معبودوں کی پرستش چھوڑ دو جو تمہاری ہوا و ہوس نے تمہارے لئے وضع کر رکھے ہیں تاکہ وہ عذاب جو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے تم پر سے ٹل جائے۔ عناصر کی افواج کا وہ اجتماع جسے کائنات کی مخفی قوتیں تمہارے خلاف عمل میں لا رہی ہیں۔ منتشر ہو جائے اور تم امن و امان کے ساتھ پروردگار عالم کے اس منشا کو پورا کرنے لگو جس کے لئے تم پیدا کئے گئے تھے۔

نوحؑ کی تقریر کے بعد رؤسا کے ماتھوں پر شکنیں پڑنے لگیں۔ ان کی ابرو میں اظہار حقارت کے لئے تن گئیں۔ انہوں نے اپنی عباؤں کے دامنوں سے اپنے چہرے چھپا لئے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ہم تمہاری باتیں سننے کے لئے تیار نہیں۔ سرداروں کی اس محفل نے نوحؑ کو آخری دفعہ ڈانٹا اور کہہ دیا کہ جاؤ اور اس طوفان کے لانے کا بندوبست کرو جس کے قہقہے مینا مینا کر تھڑدلوں کو خائف کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ آج کے بعد لوگوں کو پھسلانے کا موقع نہ دیا جائے گا اور جہاں تم اپنے دین کی تبلیغ کرو گے وہیں تمہیں روکا اور ٹوکا جائے گا۔

نوحؑ کے ساتھی جنہیں طوفان کے آنے کا اسی طرح یقین تھا جس

طرح عام حالات میں اگلے دن طلوع ہونے والے آفتاب کے اٹن مشرق سے نمودار ہونے یا رات کی تاریکی میں آسمان کے صاف مطلع پر ستاروں کے چمکنے کا یقین ہو سکتا ہے۔ چند روز کے سلمان خورد و نوش کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ جسے نوحؑ نے اپنے تین بیٹوں اور دوسرے رفیقوں کی مدد سے تعمیر کر لیا تھا۔ حیوانات و طیور کے جوڑے کشتی کی چلی منزلوں میں سوار کرائے جا رہے تھے۔ انسان بلائی منزل میں اپنا ڈیرا جما رہے تھے۔ آسمان کا مطلع صاف تھا کشتی خشک زمین پر پڑی تھی۔ بلیوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ اس عجیب و غریب تماشے کو دیکھنے کے لئے جمع ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایک مخبوط الحواس انسان کے کہنے پر کشتی پر سوار ہو رہے ہیں اور اس امر پر یقین کر رہے ہیں کہ رات کی آمد کے ساتھ خشکی تری سے بدل جائے گی اور آبادی سمندر بن جائے گی۔ دن اسی ہاؤ ہو میں گزر گیا۔ کشتی کے انتظامات مکمل ہو گئے اور نوحؑ نے غافل انسانوں کی بھیڑ پر ایک آخری لیکن پڑ حسرت نگاہ ڈال کر کشتی کی دروازے بند کر لئے۔

کچھ لوگ بستی کی طرف سے بھاگتے ہوئے اس ہجوم کے پاس آئے جو کشتی پر نوحؑ اور اس کے رفقاء کے سوار ہونے کا تماشہ دیکھ رہے تھے اور ان کی حرکت پر استہزاء کر رہے تھے۔ آنے والوں نے خبر دی کہ ایک بتور سے زمین کی سوتیں پھوٹ نکلی ہیں اور پانی زور سے نکلنے والے فوارے کی طرح اچھلنے لگا ہے۔ گلیوں میں سیلاب اٹھا چلا آ رہا ہے۔ گھروں کے منفذ پانی سے بھر پور ہو رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر اس ہجوم میں ایک ہڑچ گیا لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے تاکہ اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ تماشا کے شوقینوں نے اس بتور کی راہ لی جہاں پر قدرت کی اس فوق العادت نیرنگی کا ظہور ہو رہا تھا ایک طرف سے صرصر سرد کا ایک

زبردست جھونکا آیا۔ آسمان پر دیکھتے دیکھتے تیرہ و تار گھٹائیں چھا گئیں۔ موسلا دھار پانی برسنے لگا شہر میں ایک کھرام برپا ہو گیا۔ ادھر زمین اپنے جوف کا پانی اگل رہی تھی۔ ادھر آسمان سیلاب برسا رہا تھا۔ عمارتیں گرنے لگیں۔ پانی چڑھتا چلا گیا۔ لوگ ڈوبنے لگے۔ کسی طرف جائے مفر نظر نہیں آتی تھیں۔ پناہ لینے کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔ لوگوں نے اشجار کی ٹہنیوں پر چڑھ کر جان بچانے کی کوشش کی۔ مضبوط اور مستحکم عمارتوں کا چھتوں پر ڈیرے جمائے لیکن سیلاب کی موجوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ چند ہی روز میں آبادیوں، کھیتوں، جنگلوں اور ٹیلوں کی جگہ پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ انسان اور اس کا تمدن تمام غرقاب ہو گیا اور خشکی ایک بحرناپیدا کنار بن گئی۔ جس پر نوح کی کشتی کوہ وقار موجوں کے تھپیڑے کھاتی ہوئی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھی۔

نوح نے کشتی کے جھروکے میں سے نظر کی تو اسے اپنا بڑا بیٹا کنعان ایک ٹیلے پر چڑھتا ہوا نظر آیا۔ جس کے پیچھے پانی کی سطح بھی بلند ہوتی ہوئی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ شفقت پداری نے جوش مارا اور نوح نے آواز دی کہ آؤ نافرمانوں کا ساتھ چھوڑ دو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ لیکن کنعان جو عصیان و طغیان کا شکار ہو چکا تھا۔ کمال تبختر سے بولا کہ مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور اپنی جان بچالوں گا۔ باپ نے بہت سمجھایا کہ خدا کے غضب سے بچنے کی ترکیب صرف یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اس خدائی ناؤ پر سوار ہو جاؤ لیکن اس پر کوئی اثر

نہ ہوا۔ اتنے میں پانی کی امواج کا ایک ریلا آیا جو کنعان کو تنکے کی طرح بہا کر لے گیا۔ اپنے دلہند کو یوں غرقاب ہوتے دیکھ کر نوحؑ سے نہ رہا گیا۔ اُس نے دو زانو ہو کر بارگاہ ایزدی میں دُعا مانگی کہ الہی! میرے فرزند کو اس ہلاکت سے بچالے جو آخرت کے دائمی عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ بارگاہ ایزدی سے نوحؑ کو یہ جواب ملا کہ تم کس مُنہ سے اس نافرمان کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہو۔ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ تمہارے اہل تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا اور تمہارے پیغام کو ٹھیک سمجھا۔ نوحؑ اس لغزش پر جو اقتضائے فطری کے مطابق اس سے سرزد ہو گئی بہت نادم ہوا اور اُس نے خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنا سر نیاز جھکا دیا۔

چالیس دن اور چالیس رات کی موسلا دھار بارش کے بعد آسمان کا مطلع صاف ہو گیا۔ اس نیل رواں کے بحر زخار میں جس کے چڑھاؤ نے سر بفلک پہاڑوں کی پُرغور چوٹیاں بھی ڈھانپ لی تھیں اُتار شروع ہوا۔ زمین اپنے اُگلے ہوئے پانی کو نگلنے لگی۔ سمندروں نے اس سیلاب کو اپنے آغوش میں لینے کے لئے ہاتھ پھیلا دیئے۔ کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹک گئی۔ کشتی نشینوں کی اس مختصر سی جماعت نے جو اس طوفان کی ہلاکت آفرینیوں سے بچ رہی تھی۔ کشتی سے باہر نکل کر از سر نو تمدن انسانی کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو تلقین کی کہ وہ خدا کے غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائے رکھیں تاکہ خدائے جلیل کے قہر سے محفوظ و مصون رہ کر اپنے منشاءِ تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی جدوجہد کر سکیں۔



## طوفانِ باد

تیز کالی آندھی جو ایک نافرمان قوم کو اڑا کر لے گئی

اُس حادثہ عظیم کو وقوع پذیر ہوئے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے جس میں انسانی ہاتھوں کا تعمیر کیا ہوا تمدن طوفانِ آبی کا شکار ہو کر کامل طور پر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ مٹھی بھر کشتی نشینوں کی اولاد جو اس طوفان کی زد سے بچ گئے تھے اپنی تعداد کی کثرت کے طفیل سطحِ ارضی کے مختلف اقطاع میں اپنی نئی بستیاں تعمیر کر چکی ہے اور نوعِ انسانی شعوب و قبائل میں منقسم ہو کر اپنی اپنی جغرافیائی حدود کے اندر اپنے معاش کے وسائل کو بہتر بنانے میں مصروف ہے لیکن مرور زمانہ کے باعث انسان کی غفلت شعاریاں ان بصائر و عبر کو فراموش کر چکی ہیں۔ جن کا درس اس طوفان کی عالمگیر تباہی نے آنے والی نسلوں کے لئے چھوڑا تھا۔ بالخصوص قبیلہ عاد جو عربستان کے جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ اور خلیج فارس کے نواحی علاقوں میں آباد ہے، اپنی جسمانی بنومندی اور قد آوری کے بل پر اس قوتِ عاملہ و مطلقہ کی جانب سے یکسر غافل ہو چکا ہے جو کسی مقصدِ خاص کی طرف کائناتِ ارضی و سماوی کی رہنمائی کر رہی ہے اور مکروہات کی تعدیم اور حسنات کی تعمیر میں مصروف ہے۔ قوم عاد کے افراد اپنی جسمانی اور دماغی طاقتوں کے بل پر دوسری اقوام کو مغلوب کر چکے ہیں۔ انسان کے فطری حقوق افرادِ عاد کے غرور و تبختر کے قدموں کے نیچے پامال ہو رہے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی جگہ پھر قاہر و جابر انسانوں اور ان کے

مجسموں یا خیالی دیوتاؤں کی پرستش شروع ہو گئی ہے۔ جن کے نام پر ہر گلی کے موڑ اور ہر راستے کی نگر پر عالیشان مندر تعمیر کئے جا چکے ہیں۔ سوسائٹی اور اس کے افراد و ارکان کی خصلتوں میں وہ تمام خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جو علیم و خبیر اور سمیع و بصیر قادر مطلق کی یاد فراموش کرنے کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں۔ زندگی کا مقصد عاقل انسانوں کے سامنے اس کے سوا اور کچھ نہیں رہا کہ لوٹ کھسوٹ کر معاش پیدا کریں اور لہو و لعب میں وقت گزار دیں۔ جب انسان کی غفلت شعار یوں کی یہ حالت ہو تو وہ مقصد حقیقی جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے اور جس کے حصول کی خاطر اسے دل و دماغ، ہوش و خرد، فہم و ادراک اور سماعت و بصارت کی قوتیں ملی ہیں کس کو یاد رہ سکتا ہے۔ چنانچہ آدم و نوح (علیہما السلام) کا وہ خواب جو انہوں نے نوع انسانی کے لئے فراغت کامل و اطمینان نامہ کی زندگی کے متعلق دیکھا تھا اسی طرح شرمندہ تعبیر پڑا رہا۔ جس طرح کہ نوح کے زمانہ میں تھا۔ اخوت و مساوات اور صلح و سلام کے وہ مناظر جن کو دیکھنے کے لئے انسان کی گزشتہ نسلوں کے صالحین کی آنکھیں بیتاب رہتی تھیں ایک بھلائے ہوئے خیال کی مانند ہو گئے۔ جب انسان اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر دیتا ہے اور خدائے قدیر کی طاقت و عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرنے لگتا ہے تو کائنات کی وہ مخفی قوتیں جو حصول حسنت کی جدوجہد میں اس کی مدد کرنے کے لئے موجود ہیں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہیں اور منزل مقصود کی طرف سفر انسانی کی ترقی کی رفتار مدہم پڑ جاتی ہے۔ جمود و کسلان کی یہی کیفیت تھی جس میں قبیلہ عاد کے لوگ دنیوی اقتدار اور حاکمانہ قوت رکھنے کے باوجود جلا ہو چکے تھے اور کائنات کی مخفی قوتیں ان کی غفلت شعار یوں پر لعنت بھیج رہی تھیں۔

ہودہ جو انہی میں سے تھا۔ اپنی قوم کو اس کی غفلت شعاریوں اور یہ کارپوں پر اکتفا کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو! تم اس جسمانی اور دماغی تفوق کو جو تمہیں دوسری اقوام کے افراد پر حاصل ہے، نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے بجائے اس کے افساد پر صرف کر رہے ہو۔ تم نے اس وحدہ لا شریک لہ کی یاد کا دامن چھوڑ کر زندگی کی سراسر غلط راہ اختیار کر لی ہے جو تمہیں کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف لے جانے کی بجائے ہلاکت و بربادی کے گڑھوں میں دھکیل کر رہے گی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے اپنی عادات و خصائل کی اصلاح نہ کی اور زندگی کے صحیح مقصد کی طرف قدم نہ بڑھایا تو تم برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم برتری حاصل کر لے گی، جو تم سے اصلاح ہوگی لیکن ہودہ کی تلقینات کا ان مغرور اور سرکش انسانوں پر مطلقاً کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے اپنے طریقوں میں اصلاح کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حادثہ ہماری بنیادوں کو متزلزل، ہماری تعمیرات کو ویران اور ہمارے تمدن کو برباد نہیں کر سکتا۔ ہم طاقت و قوت کے مالک ہیں۔ ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی کے مقابلہ کے لئے سلمان اور دماغ رکھتے ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا اپنے خدا سے یہ کہو کہ ہمارا امتحان لے کر دیکھ لے اور ہمیں کسی کڑی سے کڑی آزمائش میں مبتلا کر دے۔

ہودہ مایوس ہو گیا۔ اس کی قوم کے افراد اس کے ساتھ تضحیک و استہزاء کا برتاؤ کرنے لگے۔ اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور اس کی تلقینات کی شدومد کے ساتھ مخالفت ہونے لگی۔

ایک روز قوم عاد کی تماشگاہ میں ہزاروں انسان ہودہ کو گھیرے اس سے استہزاء کر رہے تھے اور ہودہ انہیں عذاب سے بچنے کے لئے آخری

تلقین کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابھی وقت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنی گردنیں خدائے قدیر کی بارگاہ میں جھکا کر اس سے مغفرت کے طالب ہو جاؤ تاکہ وہ عذاب جو تم پر آ رہا ہے نل جائے۔ غافل انسانوں کی اس بھیڑ سے آواز بلند ہوئی کہ یہ تو اس قسم کی باتیں ہیں جیسی زمانہ قدیم کے لوگوں نے نوحؑ اور اس کے طوفان کے متعلق وضع کر رکھی ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ مادی عوامل انسان کی عقل کا مقابلہ کر سکیں اور اسے تباہ و برباد کر دیں۔ نوحؑ اور اس کے طوفان کے متعلق سنی سنائی باتوں کی صداقت کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ابھی ہمارے سروں پر بھی اسی قسم کا عذاب لا کر دکھاؤ جیسا تمہارے قول کے مطابق نوحؑ کی قوم پر نازل ہوا تھا۔

ہودؑ نے دیکھے ہوئے دل کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ کی۔ دُور اُفق پر تیرہ و تار گھٹا چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ ہودؑ نے کہا۔ دیکھو! دیکھو! عذاب الہی وہ آ رہا ہے۔ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ تمہیں خدائی سرزنش میں مبتلا کرنے والی ساعت آ پہنچی۔ تم عذاب کے طلبگار تھے وہ آ گیا۔ تم قرہ کے خواہاں تھے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔

ہجوم کے افراد نے اُفق پر سے اُٹھتی ہوئی گھنگھور گھٹا کو دیکھا اور کمال رعونت سے کہنے لگے۔ تم اسے عذاب کے نشان سے تعبیر کر رہے ہو یہ تو ہمارے کھیتوں کو سیراب اور ہمارے باغوں کو شاداب کرنے والا بادل ہے جو موسم کو خوشگوار بنا دے گا اور ہمارے خرمنوں میں اضافہ کرنے کا موجب ہوگا۔

یہ گھنگھور گھٹا دیکھتے دیکھتے سروں پر چھا گئی۔ ہوا کی رفتار میں تیزی آنے لگی اور چند لمحہ کے بعد کالی آندھی نے قوم عاد کی ساری کائنات کا احاطہ کر لیا۔ انسان کپڑوں میں سرچھپا کر زمین پر لیٹ گئے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ

اکھڑاڑنے لگے۔ عمارتوں کے سر بفلک کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے شروع ہو گئے۔ کسی کو دوسرے کی خبر لینے کا ہوش تک نہ رہا۔

آندھی کیا تھی۔ ایک جھلستی ہوئی آگ تھی۔ جانداروں کو کباب سیخ کی طرح تڑپا رہی تھی۔ انسان اور حیوان سب کے سب ریت کی اڑتی ہوئی چنگاریوں کے نیچے دب رہے تھے اور وہ جسم جن کی قد آدری اور تومندی پر غافل انسانوں کو ناز تھا جل جل کر چڑمڑ ہوتے چلے جا رہے تھے۔

دن اور رات میں کوئی تمیز نہ رہی۔ سموم کی غضبناکی میں کسی قسم کا فرق نہ آیا۔ بستیاں ویران ہو گئیں۔ باغات اُجڑ گئے۔ لہلہاتے کھیت ریگ زار بن گئے۔ شہر ریت کے نیچے دب گئے۔ آٹھویں دن اس طوفانِ باد کا جوش تمہا تو نہ عاد کی قوم کا کوئی نشان باقی تھا اور نہ اس کی تعمیر کئے ہوئے تمدن کے کوئی آثار نظر آرہے تھے۔ حضر موت کی سرسبز وادیاں جو اس قوم کے مغرور انسانوں کی عظمت شعاروں پر کف افسوس ملا کرتی تھیں لقمہ و دق صحرا میں تبدیل ہو گئیں۔ جہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جہاں آج بھی بادِ سموم چلتی ہے اور اس طرح طوفانِ باد کی یاد دلا رہی ہے جو عاد کی بستیوں پر عذابِ الہی کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ نخلستان جو اس ریگ زار کے اندر کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ ہود اور قوم عاد کے دیگر صلحاء کی قدرتی یادگاریں ہیں جو اس ہلاکت سے بچ رہے تھے۔ اگر ریت کے ان ٹیلوں کو ہٹا کر جن کا لامتناہی سلسلہ حضر موت اور ربعِ خالی میں سینکڑوں میلوں تک چلا گیا ہے، دیکھا جائے تو قوم عاد کے جابر اور قاہر انسانوں کی بستیاں آج بھی نوعِ انسان کو درسِ عبرت دینے کیلئے کھنڈروں کی صورت میں مل سکتی ہیں۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ط

## خدائی قہر کی بجلی

انسانی، بے اور ظلم کی مادی قوم لڑائی بجلی کا شمار بنی

دادئی قریٰ کی اس بستی کے قریب جو آل ثمود نے پتھروں کو تراش تراش کر تعمیر کر رکھی تھی پانی کا صرف ایک ہی چشمہ تھا۔ جس پر اس بستی کے انسانوں اور حیوانوں کی زینت کا دارومدار تھا۔ آبادی کم تھی اور چشمے کا پانی اس بستی کی تمام ضروریات آبی کا پوری طرح کفیل تھا لیکن جوں جوں انسانوں اور حیوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ پانی کی وہ مقدار جو اس چشمہ کی سوتوں سے پھوٹی تھی غیر کتنی ہوتی چلی گئی۔ ذخیرہ آب کی کمی اور مانگ کی شدت کے باعث آل ثمود کے افراد میں طرح طرح کے جھگڑے برپا ہونے لگے۔ شب و روز چشمہ پر گالی گلوچ اور دھینکا مشتی کا وہ عالم دیکھنے میں آتا کہ عقلیں ماتم کرتیں اور انسانیت اپنا سرپیٹ کر منہ چھپا لیتی۔ پانی کے پیاسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے لگے۔ بغض و فساد کی فراوانیوں نے اس بستی کا امن و امان خطرہ میں ڈال دیا۔ جھگڑا چشمہ کے پانی سے ایک دوسرے کی بہ نسبت زیادہ مستفید ہونے کا تھا لیکن خانہ جنگی کے لئے دیوتاؤں کے نام پر جماعت بندی ہونے لگی۔ ان تلواروں کی دھاریں جو دوسری اقوام کے مقابلہ میں اپنی حفاظت کے لئے بنائی گئی تھیں۔ اپنوں ہی کا خون بہانے کی

نیت سے گھروں کے اندر تیز کی جانے لگیں۔ فراغت قلبی اور اطمینان خاطر کی وہ زندگی جو آل ثمود کی گزشتہ پشتوں کے افراد کو حاصل تھی، یکسر مفقود ہو گئی۔ ہر شخص اپنی جگہ غیر مطمئن اور زندگی سے بیزار نظر آنے لگا۔ جس کے دماغ میں ہر لحظہ دوسرے کو ذلیل کرنے اور اس کے مل و منال پر قبضہ جانے کے وساوس چکر لگاتے اور اس کے قلب کو بے قرار اور اس کی رُوح کو مضطرب رکھتے تھے۔

ایک روز چشمہ پر لُونٹوں اور گوسفندوں کے گلوں کو پانی پلانے کے مسئلہ پر آل ثمود کے دو گروہوں کے درمیان اس قدر گرم گفتاری ہوئی کہ دونوں طرف سے تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ قریب تھا کہ پانی کے اس چشمہ کی جگہ ان کے خون کی ندی بننے لگتی لیکن رُوسائے شعوب نے بیچ بچاؤ کر دیا اور فیصلہ ہوا کہ قبیلہ کے احتفالِ عام میں ان تنازعات کا فیصلہ کیا جائے جو چشمہ کا پانی استعمال کرنے کے سلسلہ میں آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

احتفالِ عام میں آل ثمود کے تمام بالغ افراد جمع ہوئے۔ رُوسانے جو طرح طرح کی فریب کاریوں کے باعث دُوسروں کی بہ نسبت زیادہ متمول ہو چکے تھے اور اپنے متمول کی بنا پر حاشیہ نشینوں کی ایسی جماعتیں پیدا کر چکے تھے۔ جو ہر موقع پر اُن کی ہاں میں ہاں ملائی اور اُن کی خاطر دُوسروں کے حقوق پامال کرتی تھیں۔ متفق اللسان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری تمام بد بختیوں کی علتِ اعلیٰ یہ ہے کہ چشمہ کا پانی کم ہو گیا ہے اور اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ صلح ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام دُوسری قوتوں سے رشتہ عبودیت منقطع کر کے صرف ایک خدا کے ہو جاؤ۔ جب صلح نہیں تھا تو ہماری کھیتیاں سرسبز اور ہمارے باغ شاداب رہتے تھے۔ ہمارے جانوروں

کو پانی کی قلت کی شکایت پیش نہیں آتی تھی۔ خود ہمیں پیاس کی زحمت میں مبتلا ہونے کی فکر دامنگیر نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب مصیبتیں اسی صالحؑ کی لائی ہوئی نحوست کا نتیجہ ہیں۔ جو ہر جگہ خدا، خدا کی رٹ لگاتا اور لوگوں کو دیوتاؤں کی پرستش سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صالحؑ کی پیدائش کے باعث ہماری ساری برکتیں کافور ہو گئیں، ہمارے چشموں کا پانی سُوکھ گیا۔ ہماری کھیتیاں اُجڑ گئیں، ہمارے باغ ویران ہو گئے لیکن یہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور اپنے کام سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اگر صالحؑ دیوتاؤں کی توہین سے محترز ہو جائے تو ہمارے کاہن نذریں دے کر اور چڑھاوے چڑھا کر دیوتاؤں کو خوش کر لیں۔ پھر چشمہ میں پانی بہتا ہے آنے لگے اور ہماری تمام ویرانیاں آبادیوں میں تبدیل ہو جائیں۔

آل ثمود کو خدائی پیغام دینے والی صالحؑ بھی اسی محفل میں موجود تھا۔ شیوخ قبیلہ نے اسے موعظانہ طریق پر خدا کا نام لینے سے باز رہنے کی تلقین شروع کر دی اور کہا ”صالحؑ! تو اپنے لڑکپن میں تو بڑا سعید، ہوشمند اور ہونہار لڑکا نظر آیا کرتا تھا۔ سن رشد و تمیز کو پہنچنے کے بعد تجھے کیا ہو گیا کہ باپ دادا کے طریق کو چھوڑ کر نئی نئی باتیں کرنے لگا۔ اس خدا کو چھوڑ جسے کسی نے نہیں دیکھا اور ہمارے ساتھ مل کر رُوٹھے ہوئے دیوتاؤں کو منانے کی کوشش کر، تاکہ دُنیا کی برکتیں اور زندگی کی آسانیاں ہماری طرف عود کر آئیں اور ہم اسی فراغت کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگیں جس میں کہ ہمارے آباؤ اجداد گزران کیا کرتے تھے۔“

صالحؑ نے جواب دیا کہ اے میرے قبیلہ کے لوگو! مجھے اپنے خدائے ذوالجلال کی طرف سے اس امر کا کھلا ثبوت مل چکا ہے کہ ہماری تمام بد بختیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلہ کے لوگ معبود حقیقی سے منحرف ہو کر بتوں کی



پرستش کرنے لگے ہیں۔ عزیزو! تمہاری ہوس پرستیوں نے طرح طرح کے بُت تراش لئے ہیں جن کی پرستش میں منہمک ہو کر تم اپنی زندگیوں کے حقیقی مقصد سے بہت دُور جا پڑے ہو۔ تمہیں بھائی بھائی اور ایک دُوسرے کا مددگار اور غمگسار بن کر رہنا چاہئے تھا، لیکن خدائے ذوالجلال کا دامن چھوڑ کر تم ایک دُوسرے کے دُشمن بن گئے ہو۔ نفرتیں اور کدورتیں تمہارے دلوں میں گھر کر گئی ہیں۔ اپنے اپنے بتوں کی پاسداری نے تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے۔ میں تو اپنے خدا کی طرف سے بڑھان پہنچنے اور یہ دیکھنے کے بعد کہ تمہاری بد اعمالیوں کے باعث چشمہ کا پانی سُکھنے لگا ہے تمہاری متابعت نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنی بھلائی کے خواہشمند ہو تو اس خدا کی طرف رجوع کرو جس نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دل کو اطمینان بخشا ہے۔ چشمہ کا پانی کم ہو جانے میں خدائے برتر و توانا کو تمہارا امتحان منظور ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا تم اس مصیبت کو بیکھتی، اتفاق، رواداری اور انصاف کے ساتھ برداشت کرتے ہو یا اس کے باعث مزید ضلالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ خدائے قدیر کی بخشش شدید سے بچنے کی راہ تمہارے لئے فقط یہ ہے کہ بتوں کی پرستش چھوڑ کر پھر خدا کے ہو جاؤ۔ حصول آب کے لئے درندوں اور چرندوں کی طرح آپس میں نہ لڑو۔ بلکہ ذی فہم و ذی شعور انسانوں کی طرح مل جل کر اس مصیبت کا مقابلہ کرو۔ ایک دُوسرے پر جبر کرنے اور ایک دُوسرے کا حق غصب کرنے کا خیال چھوڑ دو۔ دیکھو! اس اُونٹنی کو خدا کے لئے کھلا رہنے دو۔ یہ تمہارے لئے اس امر کی ایک علامت کے طور پر کھلی پھرتی رہے کہ تم خدا سے ڈرتے ہو۔ چشمہ سے ایک دن تم پانی پی لو اور ایک دن کا پانی اُس ناقہ اللہ کے لئے چھوڑ دو۔ اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گے تو قلت آب کی مشکل آسان ہو جائے گی اور تمہیں ان مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔

جن میں روز بروز شدت کے ساتھ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اگر تم نے اس ناقۃ اللہ کو نقصان پہنچایا تو خدا کا غضب تمہیں برباد کر دے گا اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔

اگر قبیلہ ثمود کے لوگ صالح کی نصیحت پر کاربند ہوتے اور خدا کی عظمت و جلال کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تو چشمہ کو ایک دن کے لئے کھلا چھوڑنے کا نتیجہ ان کے حق میں بہت اچھا لگتا۔ ہر تیسرے روز انہیں اس قدر افراط کے ساتھ پانی مل جاتا کہ انہیں حصول آب کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی لیکن ہوس پرستیوں نے ان کے طبائع میں سرکشی پیدا کر دی تھی اور کسی پابندی کو چاہے وہ خدائے ذوالجلال ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو برداشت کرنے کی طاقت ان سے زائل ہو چکی تھی جب ان کے طبائع پر ہر تیسرے دن چشمہ کے پانی سے محروم رہنے کی کیفیت گراں گزرنے لگی۔ تو انہوں نے اس قانون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا اور اس ناقۃ اللہ کی کوئی نچیں کاٹ ڈالیں جو قانون الہی کے احترام کی علامت کے طور پر صالحؑ نے ان کے درمیان کھلی چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے صالحؑ سے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ دیکھیں کہ تمہارا خدا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔

صالحؑ کو اپنے قبیلہ کے افراد کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا اس کے دُکھے ہوئے قلب سے یہ صدا نکلی کہ یہ قوم اب قر خداوندی کا شکار ہونے سے بچ نہیں سکتی۔ اُس نے کہہ دیا کہ تین دن کے اندر اندر تمہیں اپنے کئے کی سزا مل کر رہے گی۔

تیسرے دن صُبح کے وقت تیرہ و تار بادلوں نے وادی قریٰ کی فضاؤں کو گھیر لیا اور ان بادلوں سے بجلی کی اس قدر ہیبت ناک کڑک نکلی کہ آل

شمود کی تمام سنگین عمارتیں لرزہ کھا گئیں اور ناسزاؤں پر خدائی قہر کی بجلیاں گرنے لگیں اور آلِ شمود کے تمام نافرمان دیکھتے دیکھتے نہنگ اجل کا لقمہ ہو گئے۔

صالحؑ اور اس کے چند رفقاء نے جو اس حادثہ کا شکار ہونے سے بچ گئے تھے اس بستی کی طرف سے منہ پھیر لیا جو نافرمان لوگوں کی نعشوں سے پٹی پڑی تھی۔ آلِ شمود کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر آج بھی ان پہاڑوں میں جو یمن سے شام کو جانے والی راہ پر واقع ہیں، اس قوم کی بد بختیوں کا ماتم کر رہے ہیں جس نے خدائی احکام سے روگردانی کی تھی۔

## مطر شدید

غیر فطری اور حیوانی حرکات انسانی بستیوں کی بربادی کا باعث بن گئیں

تاریکی شب کے نزول سے پہلے جبکہ آفتاب عالمتاب اپنے سفر کی آخری منزل طے کرتا نظر آ رہا تھا۔ دو بے ریش و بروٹ لڑکے ایشیائے کوچک کی اس بستی میں داخل ہوئے جو صدومیوں نے پہلے کوہ پر تعمیر کر رکھی تھی۔ بوڑھے اور جوان مردوں کے اس ہجوم میں جو اس بستی کی تفرج گاہ عمومی میں جمع ہو رہا تھا۔ کچھ لونڈے بھی نظر آ رہے تھے۔ جن کی بل کھاتی ہوئی زلفیں نہ صرف ان کے اپنے اخلاقی تسفل پر گواہی دے رہی تھیں بلکہ اس شہر کی عام سوسائٹی کی بے حیائی کا مظاہرہ بھی کر رہے تھیں۔ جا بجا رقص و سرود کی محفلیں گرم تھیں۔ جن میں چست لباس پہن کر اور اپنے بالوں، رُخساروں گردنوں اور کمروں کو عورتوں کی طرح آراستہ کر کے آنے والے چھو کرے ٹوٹھے مٹکا مٹکا کر بازوؤں اور ٹانگوں کو مختلف طریقوں سے حرکت میں لا کر اور بے حیائی سے بھری ہوئی چٹوٹوں سے اہل محفل پر نگاہیں جما جما کر رقص کر رہے تھے ہر شخص کے پہلو میں کم از کم ایک بے ریش و بروٹ لڑکا موجود تھا۔ جو اپنی اپنی باری پر رقص کر کے محفل کو گرمانے اور دادِ حسن حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہر رقص اور ہر نغمہ کے بعد محفل سے

تھمیں و آفرین کی صدائیں بلند ہوتیں اور کہا جاتا کہ فلاں صاحب کے لونڈے نے آج گانے میں کمال کر دیا۔ فلاں صاحب کا چھو کرا زلفوں کو بل دینے اور آنکھوں کو سرگیں کرنے میں سب پر بازی لے گیا۔ مسموخ الفطرت انسانوں کے اس ہجوم میں جو صنف نازک کی شانِ محبوبی کی کھلم کھلا تحقیر کر رہا تھا کائناتِ ارضی و سماوی کا وجدان سلیم لعنت اور پھٹکار برسا رہا تھا اور حق کی ایک دھیمی سی آواز جو خدا کے ایک بندے کے منہ سے بلند ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کو فطرت انسانی کے اس انتہائی تسفل پر تنبیہ کرتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اپنے جذباتِ شہوانی کی تسکین کے لئے فطرت کی مہیتا کی ہوئی صنف نازک کو چھوڑ کر سراسر دوسری راہیں اختیار کر رہے ہو، تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہو بلکہ اس غرض کے لئے بعض دوسرے طریقے ایجاد کر کے قدرت کی قائم کی ہوئی حدوں سے باہر نکل جاتے ہو۔ سُن لو کہ موجوداتِ ارضی و سماوی تمہاری ان حرکات پر لعنت بھیج رہی ہیں اور قدرت کی وہ مخفی قوتیں جو خدا کے قہر و غضب کی عامل و مظہر ہیں جوش میں آ رہی ہیں، اگر تم نے اے بے حیائی کے کام سے ہاتھ نہ اٹھایا تو یاد رکھو کہ خدائے قہار کی طرف سے نازل ہونے والا عذابِ شدید تمہیں ملیا میٹ کر دے گا۔

خدا کا یہ بندہ لوطؑ اس تفرج گاہ میں ایک مقام پر کھڑا تقریر کر رہا تھا اور چند انسانوں کے سوا جو اس کی باتوں کو کامل غور و انابت کے ساتھ سُن رہے تھے۔ کوئی شخص اس کی آواز پر کان نہیں دھرتا تھا۔ راہگیر تماشائی لوطؑ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر فرطِ نفور سے ناک بھوں چڑھا لیتے اور کہتے کہ یہ لوگ قدسی الصفات بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو فرشتہ ظاہر کرتے ہیں، نیک اور پاک بننے کے شوقین ہیں۔ بھلا کون انسان ہے جس

کو بے ریش و بروت لونڈوں کی طرف رغبت نہ ہو اور کون محض ہے جو معشوقیت نواز چھو کروں سے تعلق پیدا کرنے پر فخر محسوس نہ کرے۔

اس شہر کے لوگوں کی فطرتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ ان کے زاویہ نگاہ میں تبدیلی آچکی تھی۔ وہ سیاہ کاریوں اور ذلیل ترین انواع کی سیاہ کاریوں میں مبتلا ہونے کو سوسائٹی کا فرض لازم خیال کرنے لگے تھے بلکہ اس میں فخر محسوس کرتے تھے۔ گناہ کی زیادتی میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے اور گناہوں کو معیوب سمجھنے والے اور عصیان و عدوان سے نفرت کرنے والے سلیم الفطرت اشخاص کو پاکبازی اور پرہیزگاری کے طعنے دیتے تھے۔

جو نہی دو بے ریش و بروت لڑکے جن کے چہروں پر سدوم کے لونڈوں کی طرح بے حیائی کی پھٹکار نہیں برس رہی تھی بلکہ ان کے بشروں پر دنیا و جہان کی سعادت مندیاں اور تمکین مآبیاں قربان ہو رہی تھیں اس ہجوم میں داخل ہوئے، لوگوں میں ان کے دیکھنے کے لئے ایک ہلچل مچ گیا۔ سب نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اکثر اشخاص سینوں پر ہاتھ رکھ کر نہایت ہی مکروہ قسم کا اظہار تعشق کرنے لگے۔ بعض نے فحش اشعار پڑھے۔ کسی نے آوازہ کسا۔ کسی نے اپنی بے تابی کا اظہار کیا لیکن وہ ہجوم کو چیرتے ہوئے اس مقام پر جا پہنچے۔ جہاں لوط لوگوں کو ترک فواحش کی تلقین کر رہا تھا اور اس سے کہنے لگے کہ ہم بہت دور سے آپ کی ملاقات کے لئے آئے ہیں۔

لوط نے جب ان حسین و جمیل لڑکوں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اہل سدوم کے لفظوں کا ایک ہجوم ان کے پیچھے اپنی وارفتگیوں کا اظہار کر رہا ہے تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ سرکش لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے اور میں ان کے تحفظ کا کوئی بندوبست

نہیں کر سکتا۔ لُوطؑ ان لڑکوں کو ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا اور تماشائیوں کا ہجوم بھی ان کے پیچھے پیچھے شور و غل مچاتا اور اپنی بیہودگیوں کا مظاہرہ کرتا چلا آیا۔ لُوطؑ نے ان لڑکوں کو گھر میں داخل کر کے کواڑ بند کر دیئے اور بیہودگیوں کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اس کے مہمانوں کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں۔

ہجوم کے لوگوں نے لُوطؑ سے کہا کہ ہم ان لڑکوں کو ضرور دیکھیں گے اور اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تم ان مسافروں کو اپنے گھر سے باہر نکال دو اور پناہ دینے سے انکار کر دو۔ پھر ہم ان سے نیٹ لیں گے۔ لُوطؑ جس قدر منت سماجت کرتا۔ ہجوم کے لوگوں کا اصرار بڑھتا جاتا۔ آخر انہوں نے لُوطؑ کو طرح طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ ہم زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور ان خوبصورت لڑکوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔

لُوطؑ نے اس ہجوم کے دو سرکردہ اشخاص کو بلا کر ان سے بصد عجز و الحاح گزارش کی کہ وہ اس کی دونوں لڑکیوں کو اپنے عقد نکاح میں لے لیں لیکن ان مہمانوں سے تعرض نہ کریں جو اُس کے گھر کی چھت کے نیچے پناہ لے چکے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری لڑکیوں سے کوئی غرض نہیں، ہم تو ان لڑکوں کو لے کر رہیں گے، جن کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔

رات کا نصف حصہ اسی جیص بیص میں گزر گیا۔ آخر ہجوم کے اشخاص نے فیصلہ کیا کہ صُبح کے وقت روَسائے شہر کا مشورہ لے کر لُوطؑ کے گھر پر عام بلہ بول دیا جائے اور ان لڑکوں کو اہل شہر کی گرمی محفل کے لئے حاصل کیا جائے۔ کچھ لوگ صُبح تک لُوطؑ کے گھر کا پہرہ دیں اور باقی اپنے گھروں کو چلے جائیں۔

لُوطؑ اپنے مکان میں داخل ہوا تو بہت پریشان تھا۔ اُس کے چہرے پر  
 ہوائیاں اُڑ رہی تھیں۔ اسے اپنے مہمانوں کی بے حرمتی کی فکر دامنگیر ہو رہی  
 تھی۔ ان دونوں لڑکوں نے لُوطؑ کو پریشانی کے عالم میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ ہم  
 آپ کو خدائے ذوالجلال و الاکرام کی طرف سے یہ پیغام دینے کے لئے آئے  
 ہیں کہ صُبح کا آفتاب طلوع ہونے کے ساتھ ہی اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل  
 ہوگا۔ لہذا آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر ہمارے ساتھ چلئے اور برباد ہو جانے  
 والی بستی سے نکل جائیئے۔ لُوطؑ کے دل کو ان لڑکوں کی زبان سے یہ پیغام سُن  
 کر تسلی ہوئی اور اُس نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔

لُوطؑ کی بیوی جو اہل سدوم کے سردار کی لڑکی اور بتوں کی پرستار تھی  
 اپنے شوہر کے اس فرمان کا مذاق اُڑانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم ہمیشہ عجیب و  
 غریب باتیں کرنے کے عادی ہو چکے ہو میں ان مجہول ا لکیفیت و مجہول  
 الاحوال لڑکوں کی بات پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ تمہیں ان کے قول کا یقین ہے تو  
 تم چلے جاؤ۔ اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں یہیں رہوں گی اور صُبح  
 جب حسب معمول روزمرہ کی روتقیں لے کر طلوع ہوگی اور کسی قسم کا  
 عذاب نازل نہ ہوگا تو میں اپنے شہر کے بڑے مندر میں بڑے بت کے سامنے  
 نذر پیش کرنے کے لئے جاؤں گی۔

لُوطؑ اپنی بیوی کی اس گفتگو پر بہت متاسف ہوا۔ صُبح کا وقت موعود  
 قریب آ رہا تھا۔ اس لئے لُوطؑ اور اس کی دونوں بیٹیاں ان نو وارد مہمانوں کے  
 ساتھ گھر سے باہر نکل گئیں۔ لُوطؑ نے اپنے ان رفقاء کو بھی ساتھ لے لیا جو  
 اپنے اہل شہر کی حرکتوں سے بیزار اور لُوطؑ کی نصیحتوں پر عمل پیرا تھے۔  
 پہرے والے غفلت کی نیند سوئے رہے۔

طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ لوگ سدوم کی حدود سے باہر نکل گئے



اور انہوں نے پیچھے کی طرف دیکھے بغیر کسی دوسرے مقام کی راہ لے لی۔  
 آفتاب اہل سدوم کی غفلتوں پر حقارت کا قہقہہ لگاتا ہوا طلوع ہوا۔  
 لوگ لوطؑ کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ لوطؑ کی بیوی  
 نے کواڑ کھولے اور انہیں حقیقت حال کی اطلاع دی۔ لوطؑ کی بیوی نے یہ  
 بھی کہا کہ میں نے بڑے بت کے سامنے نذر گزارنے کی منت مان رکھی ہے  
 لہذا اس تقریب کی ادائیگی کے لئے تیاری شروع کی جائے۔

ہجوم کے لوگوں نے ایک جلوس مرتب کیا۔ پاکی پر لوطؑ کی بیوی کو  
 سوار کرایا اور بھجن گاتے اور گھڑیاں بجاتے مندر کی طرف چلے گئے۔ تاکہ  
 اپنے بڑے بت سے اس عذاب کے ٹالنے کے لئے درخواست کریں جو لوط  
 علیہ السلام کے خدا کی طرف سے نازل ہونے والا تھا۔

جلوس مندر میں پہنچا۔ لوطؑ کی بیوی نذر لے کر بت کے سامنے حاضر  
 ہو گئی۔ مندر کے تمام گھڑیاں بجنے لگے۔ ابھی لوطؑ کی بیوی نذرانہ پیش کرنے  
 کے لئے بت کے سامنے جھکی ہی تھی کہ زلزلہ کا ایک شدید جھٹکا محسوس ہوا  
 اور نذرانہ کی طشتری اُس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ کئی احساسات جھٹکے کے  
 ساتھ منہ کے بل زمین پر گرے۔ یہ مہانات کرنے کی صدائیں آئیں  
 اور قلعہ کوہ سے آگ اور دھوئیں کا ایک ہیبت ناک ستون فضائے آسمانی کی  
 طرف بلند ہوتا ہوا دیکھا گیا۔ جو سدوم کے اوپر پانی، گندھک اور پتھر کے  
 سنگریزوں کی ایک خوفناک بارش برسانے لگا۔ فضا تیرہ و تار ہو گئی۔ ہر طرف  
 پتھراؤ ہونے لگا۔ سدوم کی عمارتیں دھڑادھڑ منہدم ہونے لگیں۔ اس کے  
 بازاروں میں سیاہ پانی کا ایک سیلاب آ گیا۔ اس کے باشندے اس پتھراؤ کا شکار  
 ہو کر ہلاک ہونے لگے اور آخر کار زلزلے کا ایک اور شدید جھٹکا آیا۔ جس  
 کی زلزال سے سدوم کی بستی زمین کے اندر دھنس گئی اور شکم ارضی کی

موجودات ابھر کر اُپر آگئی۔ انسان نے ایک دفعہ پھر اس حقیقت کبھری کا تجربہ کر لیا کہ عناصر قدرت کو انسان کی روحانی اور اخلاقی نفسیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر سوسائٹی کے اخلاق کا معیار بلند ہو تو قدرت کی مخفی قوتیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ اگر انسان روحانی تسفل میں مبتلا ہو جائیں تو یہی عناصر اس کی سرزنش کے لئے ہیجان میں آجاتے ہیں۔

وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

## زلزلہ

ناپ تول میں کمی اور تجارتی معاملات میں بے ایمانی نے تباہ کر ڈالا

مدین کے باشندوں پر جو شام سے مصر کو جانے والی راہ پر ایک بیابان میں آباد تھے زندگی تلخ ہو گئی۔ انسان کی کمائی سے برکتیں جاتی رہیں۔ زرومال کی فراہمی کی ہوس نے اس قبیلہ کے افراد کو اس قدرتِ کاملہ کی طرف سے غافل کر دیا جو کائناتِ ارضی و سماوی پر محیط اور اُس کے ہر امر میں کار فرما ہے۔ یہ قبیلہ بھی عاد و ثمود کی اقوام کی طرح ان وسائلِ معیشت سے جو قدرت نے ان کے لئے بیابان میں مہیا کر دیئے تھے شکر گزاری کے ساتھ تمتع اندوز ہونے کی صلاحیتیں کھو بیٹھا۔ ذاتی ہوس رانیوں نے انہیں طرح طرح کی فریب کاریوں میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ ان پیمانوں اور اوزان میں خیانت کرنے لگے جو ان کے سلامت رو آباؤ اجداد نے لین دین کی سہولتوں کے لئے وضع کئے تھے۔ کم تولنا۔ حساب میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا۔ اپنی تجوریاں پُر کرنے کے لئے ان مسافروں اور رہگیروں پر جو ان کی دکانوں سے سامان خریدتے تھے، طرح طرح کی کٹوتیاں عائد کرنا ان کا دستور ہو گیا۔ مسافروں نے یہ حال دیکھ کر اس بستی سے کترا کر نکل جانا شروع کر دیا۔ تجارت کے قافلے شام اور مصر ہی سے سارے راستے کے لئے زادِ سفر لے کر چلنے لگے۔ مدین کا بازار سرد پڑنے لگا۔ اہل مدین راستوں کی ناکہ بندی کر کے ہر

آئندہ روزند سے محصول وصول کرنے لگے۔ تاجروں کی وساطت سے اس قوم کی خیانت پیشگی اور فریب کاری کی داستانیں دُور دراز کے ممالک میں پھیل گئیں اور ہر جگہ لوگ بڑائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے لگے اور ان پر لعنت بھیجنے لگے۔

شعیبؑ نے کہا۔ بھائیو! اگر تم کاروبار کی گرم بازاری کو واپس لانے اور حصول معاش کی راہوں کو کشادہ کرنے کے خواہاں ہو تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاؤ۔ جس کے ہاتھ میں قدر و بسط کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اُس کے قہر سے ڈرو اور ان فریب کاریوں سے باز آ جاؤ۔ جو تم نے پاپ تول اور لین دین کے امور میں اختیار کر رکھی ہیں۔ مسافروں اور تاجروں کے لئے ہر طرح کی ممکن سہولتیں مہیا کرو۔ ان پر اپنے بُن میں سے گزرنے کے لئے محصول عائد کرنا چھوڑ دو اور ان کے ساتھ خوش معاملگی سے پیش آؤ۔ تاکہ زندگی اور معاش کی ان صعوبتوں سے نجات حاصل کر سکو جو تمہیں اپنے بد معاملہ ہونے کے باعث پیش آ رہی ہیں۔

شعیبؑ کے ان نصائح پر مدین کے لوگ بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ پورا تول دے کر ہم بہت کم نفع حاصل کر سکیں گے اگر وزنوں، پیمانوں اور باٹوں میں فریب کاری سے کام نہ لیں تو کمائی نہیں کر سکیں گے۔ عبور و مرور کا محصول چھوڑ دیں تو جنگل میں بسر اوقات کیسے کریں۔ شعیبؑ اور اس کا خدا دونوں تجارتی ہتھکنڈوں سے بے خبر ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ معاش کس طرح پیدا کیا جاتا ہے اور مال میں ترقی کرنے کی کیا تدابیر ہیں، شعیبؑ ہمارے تجارتی ہتھکنڈوں کو الم نشرح کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ لوگ ہماری چالاکیوں سے آگاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دھوکا دے کر بے خبروں کو لوٹنے کے مواقع ہمارے لئے کم ہو رہے ہیں۔ شعیبؑ اور ان کے رفقاء کو

اس بستی سے نکال دو یا ان کا منہ بند کر کے ان پر پابندی عائد کرو کہ وہ آئندہ ہمارے لین دین کے طریق کے متعلق ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالیں۔  
 رؤسائے قبیلہ نے شعیبؑ کو ڈانٹا۔ اسے اپنی تبلیغ سے باز رہنے کی تاکید کی اور دھمکی دی کہ اگر ہمیں تمہارے خاندان کے لوگوں کا لحاظ نہ ہوتا تو تم سنگسار کر دیئے جاتے۔

شعیبؑ نے کہا: ”غافل انسانو! تم میرے قبیلہ کے افراد سے تو ڈرتے ہو لیکن اس خدائے ذی عظمت و ذی قوت کی پروا نہیں کرتے جس کے صریح احکام میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں اپنے کام سے جو میرے خدا نے میرے سپرد کر دیا ہے اور جس میں تمہارے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے باز نہیں رہ سکتا اور میں تم سے اس کام کے معاوضہ میں جو تمہاری فلاح و بہبود کے لئے کر رہا ہوں، اجر بھی نہیں مانگتا۔ پس خدا کو مانو اور اس کے احکام پر چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمانے کی ہلاکتیں تمہیں ہڑپ کر جائیں گی اور تم ان کو نگل جاؤ گے۔“

شیوخ قبیلہ نے جواب دیا: ”ہم جانتے ہیں کہ زرا ندوزی کے طریقے کیا ہیں؟ تم ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتے، تو یاد رکھو کہ تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔“

شعیبؑ نے کہا: ”خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کا انجام بُرا ہوگا۔“

شعیبؑ دل آزرہ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ ادھر اُفق پر سے ایک گھٹا اُٹھی جو اس بیابان کی فضائے سماوی پر چھا گئی اور دیکھتے دیکھتے نیچے اترنے لگی۔ یہ ایک قسم کا تیرہ و تار دھواں تھا۔ جس سے گندھک کی بو آ

رہی تھی اور یہ دُھواں ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانہ سے اُٹھ رہا تھا۔ جو مدین سے کچھ فاصلے پر قریب ہی واقع تھا۔ تین دن اور تین شب مدین کی فضاؤں پر یہ سائبان بنا رہا اور اہل مدین اس عذاب میں مبتلا رہنے کے باوجود تائب نہ ہوئے۔

تیسری شب اہل مدین کے چند سرکردہ اشخاص نے اوباشوں کی ایک جماعت لے کر شعیب کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ اس شخص کی زندگی کا قسطہ ہی تمام کر دیں جس کے دل آزرہ ہونے سے ان پر دُھوئیں کی معیبت نازل ہو رہی تھی۔ دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کا فیصلہ ہوا اور ابھی عمر شعیب (علیہ السلام) کے دروازہ پر پہنچی ضرب لگانے کے لئے بلند ہوا تھا کہ زمین کے اندر سے ایک ہیبت نازک گونج اُٹھتی بنائی دی۔ جس کے ساتھ ہی زلزلے کا ایک شدید جھٹکا آیا اور محاصرہ کرنے والے اشخاص اوندھے منہ زمین پر گر گئے۔

صبح ہوئی تو دُھواں کافور ہو چکا تھا۔ آفتاب کی آنکھ نے مدین کی بستی پر حسرتوں سے بھری ہوئی نگاہیں ڈالیں جو برباد ہو چکی تھی اور جس کے اکثر ساکنین زلزلے کا خوفناک جھٹکا کھانے کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ صرف شعیب (علیہ السلام) اور اُس کے چند صالح رفقاء باقی رہ گئے۔ جنہوں نے مدین کی زندگی کو از سر نو اس طریق پر آباد کیا، جو اللہ کی طرف سے شعیب کو بتایا گیا تھا۔

نوع انسان کی تاریخ میں اس امر کے ثبوت کیلئے ایک اور واقعہ کا اضافہ ہو گیا کہ اگر انسان صلح و سلامتی، عدل و انصاف اور حلم و مساوات کے ساتھ زندگی بسر کریں تو عوامل قدرت اُن کے مددگار ہوتے ہیں اور اگر عصیان و عدوان سے کام لیں تو یہی عوامل اُن کی تباہی و بربادی کا موجب بن جاتے ہیں۔

## آل فرعون کی غرقابی

سندر کی جن لہروں نے مجبور و مقهور لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نجات کیلئے نجات کا راستہ بنایا تھا وہی لہر میں آجیں بل فرعون اور اس کی فوجوں کو نفل کیں۔۔۔

غلاموں کا ایک انبوہ کیشرون بھر کی محنت شاقہ کے بعد جو اس سے اہرام کی مضبوط و سنگین بنیادیں قائم کرنے میں لی گئی تھی۔ مدینۃ الفرعون کی طرف واپس آ رہا ہے۔ کام اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن افراد آل فرعون کے تازیانے جو کام کے دوران میں دن بھر ان کے برہنہ جسموں پر برستے رہے تھے ابھی تک ان کا تعاقب کر رہے ہیں تاکہ غلاموں کی اس بھیڑ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنی اپنی قیامگاہوں تک پہنچا دیں۔ فرعون کے کارندے مظلوم و مقہور انسانوں کی ان ٹولیوں کو عین اسی طرح ہانکتے لئے آ رہے ہیں جس طرح کہ کسان بیلوں کو اور چرواہا اپنے گلے کو ہانکتا ہے۔ یہ نظارہ اس سرزمین میں نظر آ رہا ہے جو اپنے دور کے تمدن میں کرۂ ارضی کے تمام دیگر ممالک سے پیش پیش ہے۔ جس کی عمارتیں رفعت و شکوہ میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جس کی سرسبزی و شادابی کو رشک فردوس ہونے سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور جس کی ثروت و اقبال مندی عاد و ثمود کی شوکت و عظمت کے افسانوں کو شرما رہی ہے۔ اس دور میں انسان کے تمدن و عمران کا مرکز و مرجع سرزمین مصر کی قبطنی قوم ہے۔ جس کے بادشاہوں نے افراد نوع انسانی پر اپنے جاہ و

جلال کا سکہ بٹھانے کے لئے فرعون کا لقب اختیار کر رکھا ہے۔ جن کے دربار میں ہزاروں انسانوں کی گردنیں ہر وقت جھکی رہتی ہیں اور جن کے اقتدار و جبروت کے سامنے ہر روز لاکھوں افراد سجدہ ریز ہو کر اقرار عبودیت کرتے ہیں جس تمدن کی اساس ثروت و طاقت کے جابرانہ تمرکز پر رکھی گئی ہو اُس کی معراج یہی ہوتی ہے کہ انسانوں ہی کا ایک گروہ عالم انسانیت کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر کے خدائی دعوے کرنے لگے اور اس محیط و مطلق قوت کو حقیر و لاشے محض سمجھنے لگے جو کائنات کی موجودات میں بالا راہِ عامل و نافذ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس عہد عتیق کے باشندگانِ مصر نے اپنے بادشاہ کو مختارِ مطلق کا درجہ دے کر اس کی عبادت شروع کر دی تھی اور خود بادشاہ بھی علی الاعلان دعویٰ کیا کرتا تھا کہ آج رُونئے زمین پر میرے برابر طاقت و حشمت رکھنے والا کوئی سردار نہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کی قسمتوں کا مالک و مختار میں اور فقط میں ہوں۔ دُنیا بھر کے خزانے و ذخائر بلا شرکت احدے میری ملکیت ہیں۔ کسی کو ان میں میری اجازت لئے بغیر ذرہ بھر تصرف کرنے کی مجال نہیں۔ کائنات میرے اشارۂ چشم و ابرو پر رقص کرتی ہے۔ ارض و سما کی ظاہر و مخفی قوتوں میں سے کس کو مجال ہے کہ میرے مقابلہ پر آکر کامیاب و ظفر مند ہوے یا توقع کر سکے۔

اسی فرعون کے کارندے بنی اسرائیل کے غلامی پیشہ افراد کو ڈھوروں کے گلے کی طرح ہانکتے ہوئے مدینۃ الفرعون کی طرف لا رہے تھے۔ قبلی یعنی فرعون کے ہم قوم و ہم نسل لوگ مصر کی زمینوں اور اس میں پیداوار ہونے والی نعمتوں کے مالک متصور ہوتے تھے اور اسرائیل کی اولاد کو جو اس سرزمین میں آباد تھی، ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ اُن کے آباؤ اجداد کسی دوسرے ملک سے چل کر مصر میں آئے تھے اور تعداد کی قلت اور طاقت و ثروت کی کمی



کے باعث قبلیوں سے مغلوب ہو چکے تھے۔ کئی پشتیں گزرنے کے بعد جب قبلیوں نے غلام قوم کی آبادی ضرورت سے زیادہ بڑھتی دیکھی تو اپنے فرعون سے اجازت حاصل کر لی کہ اس قوم کے نوزائیدہ بچوں کو جس سال چاہیں قتل کر دیں اور ان کی لڑکیوں اور عورتوں کو اپنے گھروں کی زینتیں بنانے کے لئے زندہ رہنے دیں۔ آل فرعون کے نزدیک اولاد اسرائیل کی وقعت و قیمت حیوانوں کے ان گلوں سے زیادہ نہ تھی جنہیں وہ اپنی ضروریات معیشت کے لئے چاہتے تھے اور جن کی تعداد وہ اپنے حسب ضرورت ایک معین حد کے اندر اندر رکھتے تھے۔ تاکہ کثرت نفوس کے بل پر وہ آل فرعون پر غالب نہ آسکیں اور ہمیشہ کے لئے ان کے غلام بنے رہیں۔

اس دلت و خواری اور اس کرب عظیم میں یوسف اور اس کے بھائیوں کی اولاد نے کئی پشتیں گزار دیں لیکن انہیں آل فرعون کے پنجہ سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر سمجھائی نہ دے سکی۔ آبادی کی کثرت اور تعداد کے اضافہ کے بل پر آل فرعون کا مقابلہ کرنے کا خیال حکمران قوم کی نفاق انگیز چالوں اور فراعنہ مصر کی اطفال کش حکمت عملی نے ان کے دل سے یکسر نکال دیا تھا، وہ اپنے لئے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لئے اس دائمی عذاب میں مبتلا رہنے کو اپنی مستقل بد بختی کی شکل میں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے کہ موسیٰ بن عمران کی پکار نے ان کی خوابیدہ روحوں کو بیدار کر دیا۔ ان کے دلوں میں آزادی کی خواہش پیدا کر دی اور جس نجات کو وہ ناممکن الحصول سمجھ بیٹھے تھے وہ ممکن نظر آنے لگی۔ موسیٰ (علیہ السلام) جس نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اور ہجرت کر کے مخلصی حاصل کی تھی، بارہ سال کے بعد واپس آیا تھا اور اپنی قوم کے افراد سے کہہ رہا تھا کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔ اس کے بہت سے قطععات بے آباد پڑے نئے آباد کاروں کا

انتظار کر رہے ہیں اور مصر میں اس کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر لے جائے۔ موسیٰ کے اس پیغام نے بنی اسرائیل کے درمیان ہيجان کی ایک عام کیفیت پیدا کر دی اور وہ ہر طرف سے اپنے جابر و قاہر خداوندوں سے اپنے اصلی وطن یعنی کنعان و فلسطین کو واپس جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے بزرگوں کی دعوت پر ہمارے آباؤ اجداد اس سرزمین میں آکر آباد ہوئے تھے۔ اب ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں موسیٰ کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔

مصر سے ہجرت کر جانے کا خیال روز بروز ترقی کرتا گیا۔ حکام وقت کو یہ فکر دامگیر ہونے لگی کہ یہ تحریک کہیں عام بغاوت و سرکشی کی صورت اختیار نہ کر جائے اور مفت کے غلاموں کا یہ انبوه کثیر کہیں ان کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور سرزمین کی طرف نہ چلا جائے۔ فرعون کے دربار میں اس موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو طلب کیا گیا۔ جن کی تبلیغ بنی اسرائیل میں حصولِ نجات کا خیال پیدا کرنے کا موجب بنی تھی۔

بھرے دربار میں موسیٰ اور ہارون سے ان کی فتنہ انگیزیوں کے متعلق باز پرس کی گئی اور فرعون نے ان سے پوچھا کہ جس قسم کی تبلیغ وہ بنی اسرائیل میں کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا:

”ہمارا مقصد حقیقی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دے اور ہم یہ پیغام تیرے پاس اس قادر مطلق کی طرف سے لے کر آئے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے۔ جس کی رحمت و ربوبیت سے تمام اقوام یکساں طور پر مستفید ہو رہی ہیں اور جس کے حضور میں نسلی امتیاز کوئی معنی رکھنے والی بات نہیں۔“

فرعون بولا: ”اب موسیٰ! کیا تو وہی شخص نہیں جس نے ہمارے

گھروں میں پرورش پائی۔ ہمارے ہی انعامات نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ تو نے اپنی عمر کا ایک حصہ ہمارے درمیان بسر کیا۔ پھر تو نے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ جس کی سزا موت تھی لیکن تجھے اس جرم کی سزا نہیں دی گئی۔ پھر یہ کیا ناشکر گزاری ہے کہ تو آج ہمارا اور ہماری قوم کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف برا بیچنے کرتا ہے۔“

موسیٰ: ”میں اس جرم سنگین کا بیشک مرتکب ہوا تھا، لیکن اس وقت جبکہ میں ابھی رسالت خداوندی کی غلعت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ اس جرم کے بعد جو میرے ہاتھ سے اتفاقہ سرزد ہو گیا۔ میں نے مصر کو خیر باد کہہ دیا اور کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ تاکہ تم لوگ مجھ سے بدلانہ لے سکو۔ غربت کی زندگی میں میرے پروردگار نے مجھے اپنے انعام خاص سے نوازا اور مجھے اپنا پیغمبر بنا لیا۔ تم نے میری پرورش کرنے کا احسان بھی جتایا ہے، سو اس کا جواب بھی سن لو کہ تم میرے قتل کے درپے تھے۔ یہ اسی رب العلمین کو منظور تھا کہ میں زندہ رہوں۔ جس نے میری حفاظت و پرورش کا ایسا انتظام کر دیا جو اس کی قدرتِ حقہ و کاملہ کا ثبوت ہے۔ تم نے میری ساری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اور اس کے باوجود یہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے میری پرورش کی ہے۔“

فرعون: ”رب العلمین کیا شے ہے۔ جس کا تم بار بار تذکرہ کر رہے ہو۔ کیا مجھ سے زیادہ بااقتدار ہستی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟“

موسیٰ: ”رب العلمین وہی ہے۔ جس کی رحمت و ربوبیت کے کرشمے اس کرۂ ارضی سے لے کر اجرام سماوی تک ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ نہ ماننے کی اور بات ہے لیکن اس حقیقت کبریٰ سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ رب العالمین ہی ساری کائنات کا محافظ و نگہبان ہے۔“

فرعون: (اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر) ”کیا تم سنی رہے ہو کہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟“

موسیٰ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا: ”رب العالمین وہی ہے جس نے تمہارے آباؤ اجداد کی پرورش کی اور جو تمہاری پرورش کا بھی کفیل ہے، جس کی دی ہوئی نعمتوں پر تم زندگی بسر کر رہے ہو۔“

فرعون جسے اپنی قہرمانی طاقت کے مقابلہ میں دوسری طاقت کا تذکرہ سننا بھی ناگوار گزر رہا تھا اور جس کے دل میں موسیٰ کی تقریر کے ساتھ ساتھ یہ اندیشے بھی پیدا ہونے لگے تھے کہ اس کی ذات کو خدا سمجھنے والے اعیان و عمائد کے قلوب کہیں موسیٰ کی گفتار سے متاثر نہ ہو جائیں۔ جھنجھلا کر بولا:

”لوگو! یہ شخص جو تمہارے لئے رسول بن کر آیا ہے، مجھے تو مجبوط الحواس اور مجنون نظر آ رہا ہے جو مجیبہ قسم کی باتیں کرتا ہے۔“

موسیٰ نے جواب دیا: ”رب العالمین وہی ہے جو مشرق و مغرب کے مابین کی ساری کائنات کا پروردگار ہے جس کی ہستی کا ذکر لگانے کے لئے کچھ بہت زیادہ جستجو کی ضرورت نہیں۔ صرف تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے۔ جو کائنات و مافیہا پر غور کرنے معلوم کر سکے کہ پس پردہ کوئی بہت بڑی قوت حکم فرما ہے۔“

فرعون میں رب العالمین کا تذکرہ سننے کی تاب نہ رہی اور برا کر بول اٹھا۔

”اے موسیٰ! گوش سے سُن لے کر اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو قادرِ مطلق گردانا اور خدا متصور کیا تو میں تجھے زندان میں اسیر کروں گا۔“

موسیٰ: ”اے فرعون! تو میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتا اگر تو چاہے تو میں اس رب العالمین کی کوئی واضح نشانی تجھے دکھا سکتا ہوں جو قادرِ مطلق ہے

اور جس کی مٹھی میں تیری جان اور تیری ساری کائنات ہے۔“  
 فرعون: ”اگر تیرے پاس اس امر کا کوئی ثبوت ہے کہ تو اس رب

العالمین کا بھیجا ہوا ہے، تو وہ ثبوت ہمارے دربار میں پیش کر۔“  
 موسیٰ نے اس موقع پر اپنا عصا زمین پر پھینک دیا جس کے سانپ کی طرح رینگنے کا تماشا وہ کوہ طور پر دیکھ چکے تھے۔ عصا زمین پر گرتے ہی جیتا جاگتا سانپ نظر آنے لگا۔ جس کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری رنگ رہ گئے۔ اس کے علاوہ موسیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر کھول دیا۔ جس سے آفتاب عالمتاب کی مانند روشنی کی تیز شعاعیں نکل نکل کر فرعون اور اس کے اہل دربار کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگیں۔

اس مخیر العقول کرشمہ کو دیکھنے کے بعد فرعون نے دوسرا پہلو بدلا اور اپنے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”یہ تو کوئی بڑا ہی ماہر جادوگر ہے جو تمہیں جادو کے زور سے اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے اب تم ہی بتاؤ کہ اس شخص کا کیا علاج کرنا چاہتے ہو؟“

اہل دربار نے جن کے قلوب پر اس داعی حق کی گفتار اور اس سے ظاہر ہونے والی افوق الفطرت کرشمہ نے ہیبت طاری کر دی تھی اور وہ موسیٰ کے دعویٰ کو درست سمجھنے کا گمان کرنے لگے تھے باہمی مشورہ کے بعد فرعون سے عرض کی کہ اس شخص کا مزید امتحان لیا جائے اور جتنے ساحر، جادوگر اور شعبدہ باز مملکت مصر میں موجود ہیں ان سب کو بلا کر اس سے مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یوم زینت کو جہاں کھیل اور تماشوں کے سامان عامتہ الناس کے لئے مہیا کئے جاتے ہیں وہاں موسیٰ اور مملکت فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ بھی ہوگا۔

آل فرعون کے یوم زینت کا آفتاب وادئ نیل پر پوری تابانی کے ساتھ طلوع ہوا اور صبح ہی سے مندروں کے گھنٹوں اور پجاریوں کی جھانجوں نے فرعون کے جلال و جبروت کے ترانے گانے شروع کر دیئے۔ لوگ جوق در جوق اس میدان میں جمع ہونے لگے جہاں قومی عید منانے کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ رقص و سرود کی محفلیں گرم کی گئیں۔ ہر طرف تفریح کے سامان نظر آنے لگے۔ آل فرعون کے افراد فوق البرق پوشاکیں پہن کر میلے میں شامل ہونے لگے۔ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے دعوت نظارہ دینے لگیں۔ طرح طرح کے سامان کی دکانیں آراستہ کی گئیں۔ ایک وسیع اور کشادہ مقام پر فرعون کا خیمہ نصب کیا گیا۔ جس سے اُس کے دنیوی جاہ و جلال کی شان پکی پڑتی تھی۔ فرعون اپنے دربار میں اس تختِ مرصع پر جلوہ افروز ہوا جو خالص ہاتھی دانت سے تیار کیا گیا تھا۔ قارون نے تخت کے نیچے اور تخت کے سامنے طلائی اشرفیوں کا فرش بچھا دیا، ہامان نے اپنے ملک کی ریت کے مطابق بھجن گائے، جن کے خاتمہ پر کرناؤں کی صدا نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور تمام لوگ اپنی اپنی جگہ فرعون کے خیمہ اور فرعون کی ذات کی طرف رخ کر کے سر بسجود ہو گئے۔ چند لمحہ کے بعد پھر کرنا کی صدا بلند ہوئی اور لوگ حسبِ معمول اپنے اپنے مشاغل میں منہمک ہو گئے۔

دربار میں مملکت مصر کے بڑے بڑے شعبہ باز جو فرعون کی دعوت پر دور دراز کے سفر طے کر کے آئے تھے، موجود تھے۔ موسیٰ اور ہارون بھی عصا ٹیکتے ہوئے آہنچے۔ اہل دربار کی نگاہیں بڑے اشتیاق سے حق و باطل کے اس معرکہ کے ظہور کا انتظار کر رہی تھیں جو اس دن کے لئے مختص کیا جا چکا تھا۔

فرعون نے جادوگروں اور ساحروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”بنی اسرائیل کا یہ جادوگر ہمیں عجیب و غریب کرشمے دکھا چکا ہے۔ تمہیں اس مقصد کے لئے بلایا گیا ہے کہ تم اس کے مقابلہ میں اپنے جادو کے زور سے غلبہ حاصل کرو، تاکہ آل فرعون کی عزت برقرار رہے۔ یہ شخص اپنے عصا کو سانپ بنانے کا شعبدہ دکھا کر کہتا ہے کہ وہ کسی رب العالمین کا رسول ہے۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ دنیا کی جتنی عظمتیں ہیں وہ سب میرے لئے مختص ہو چکی ہیں۔“

جادوگروں نے جواب دیا کہ ”اے فرعون ہمیں تیری عزت کی قسم، ہم ضرور بنی اسرائیل کے اس جادوگر پر غالب آئیں گے۔ ہم میں بڑے بڑے صاحبان کمال موجود ہیں لیکن ہماری گزارش ہے کہ اگر ہم نے بنی اسرائیل کے اس جادوگر کو شکست دے دی تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا۔“

فرعون نے وعدہ کیا کہ ان سب کو مقربین بارگاہ شاہی بنا لیا جائے گا اور وہ ہر وقت فرعون کے دربار خاص میں حاضر رہا کریں گے۔

باشندگان مصر کو اس سے بڑے کسی سے بکا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ فرعون کسی کو اپنا مقرب بنا لے۔ چنانچہ تمام جادوگر فرعون کے اس وعدہ پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”آئیے ہمارے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے۔“

موسیٰ نے کہا ”میرے خدا نے مجھے اپنی رسالت و نبوت کی یہ کھلی ہوئی نشانی دے رکھی ہے۔ کہ میرا یہ عصا زمین پر گرتے ہی رینگنے والا سانپ بن جاتا ہے۔ تم بتاؤ کہ اپنے جادو کے زور سے کیا شعبدہ دکھا سکتے ہو؟“

جادوگروں نے جواب دیا۔ کہ ہم بھی سانپ دکھا سکتے ہیں اور رسیوں کے سانپ دکھا سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ”اچھا دکھاؤ تم رسیوں کو کس طرح

سانپ بناتے ہو“

جادوگروں نے متعدد رسیاں زمین پر بچھا دیں اور ان کے گرد گھوم کر  
بنسری بجانے لگے۔ کچھ جادوگر منتر پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تمام  
رسیاں لہراتے ہوئے سانپ نظر آنے لگیں۔ انہیں دیکھ کر فرعون کھلکھلا کر  
ہنس پڑا اور اہل دربار نے نعرہ ہائے تحسین و نصرت بلند کئے۔

موسیٰ نے بھی دیکھا کہ رسیاں سانپ بن گئیں اور اسے جادوگروں  
کے اس شعبہ پر سخت تعجب ہوا۔ اس نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ زمین  
پر گرتے ہی وہ اژدھا نظر آنے لگا اور اس اژدھا کے منہ سے اتنے زور کی  
پھنکار نکلی کہ اہل دربار ششدر رہ گئے اور رسیوں کے سانپ سر اٹھتے ہو کر  
بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مہمان مبین نے ان کا تعاقب کیا اور  
جادوگروں کے دیکھتے دیکھتے ان سب کو نکل گیا۔

جادوگروں کو یقین تھا کہ ان کے ڈالے ہوئے سحر کا توڑ روئے زمین پر  
کوئی نہیں۔ جب انہوں نے اپنے کمال کو یوں فنا ہوتے دیکھا تو انہیں خیال  
پیدا ہوا کہ یہ مظاہرہ یقیناً کسی ایسی فوق الفطرت طاقت کی طرف سے ہے جو  
جادو پر بھی غالب ہے اور موسیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی  
طرف سے اس کی رسالت کی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے۔ وہ تمام کے تمام ہیبت  
زدہ ہو کر اس خدائے قہار کے آگے سر بسجود ہو گئے، جس کی قدرت کی  
نیرنگیاں سحر اور جادو پر بھی غالب آگئیں اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم  
موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کے خدا پر یعنی اُس خدا پر جس خدا کا پتہ ہمیں  
موسیٰ اور ہارون دے رہے ہیں، ایمان لے آئے۔

فرعون اس نظارہ کی تاب نہ لاسکا۔ اُس نے جادوگروں کو ڈانٹ کر کہا۔  
”تم بڑے ہی بد تمیز ہو۔ جنہوں نے میری اجازت لئے بغیر موسیٰ اور ہارون“



کے پروردگار کو سجدہ کر دیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ موسیٰ تمہارے گروہ کا سردار اور سب سے بڑا جادوگر ہے اور تم نے اس کے ساتھ پہلے ہی سے یہ سازش کر رکھی تھی تاکہ میں سردربار ذلیل کرو۔ تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہارے اعضاء کاٹ دیئے جائیں گے اور تمہیں صلیب پر لٹکایا جائے گا۔“

جادوگروں نے جواب دیا۔ ”اے فرعون! ہم پر حقیقت حال منکشف ہو گئی ہم نے سمجھ لیا کہ کائنات کا پروردگار اور مالک تو نہیں۔ بلکہ وہ خدائے قہار ہے جس نے موسیٰ کو اپنا رسول بنایا تو ہمیں اذیت دے دے کر ہماری جانیں لے سکتا ہے لیکن موت کے بعد کی حقیقی مغفرت اسی خدائے قدیر کے ہاتھ میں ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا جو کچھ تیرے جی میں آئے ہمارے متعلق فیصلہ کر لے لیکن اب ہم اس رب العلمین کی طرف سے منہ نہیں موڑ سکتے جو کائنات ارضی و سماوی کا حقیقی بادشاہ ہے۔“

فرعون یہ تماشا دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کا جلال و جبروت بھرے دربار کے اندر خاک میں مل رہا تھا۔ اس کی خدائی چھینی جا رہی تھی۔ اسے اندیشہ لگ رہا تھا کہ دوسرے لوگ بھی جادوگروں کے تتبع میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان نہ لے آئیں اور اس و بادشاہت جاتی رہے۔ اس نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود میں موسیٰ کو کاذب خیال کرتا ہوں۔ کائنات میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں جو مجھ سے زیادہ قہرمان ہو۔ موسیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا خدا اجرام فلکیہ پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ یہ سب غلط ہے اور اسے غلط ثابت کرنا کوئی مشکل امر نہیں۔ اے ہامان! تو آج ہی سے ایک بلند اہرام بنانے کا اہتمام شروع کر دے۔ جس پر چڑھ کر ہمیں اجرام فلکی تک پہنچنے کے راستے دریافت کر سکیں

اور وہاں پہنچ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اس کی طاقت و عظمت کا اندازہ لگا سکوں اور ان اجرام فلکیہ پر اپنی حکومت کا سکہ جما سکوں جس کی حکمرانی کو موسیٰ اپنے رب العالمین کی طرف منسوب کر رہا ہے۔“

قارون اور ہامان نے فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اہل دربار پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ اجرام فلکی بھی انسان کی دسترس سے باہر نہیں اور فرعون چاہتے تو اپنی مملکت وسیع تر کرنے کے لئے ستاروں پر بھی چڑھائی کر سکتا ہے اور ہم جو اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں اس کام کے لئے ہر قسم کا سامان مہیا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

اہل دربار پر سے موسیٰ کی تلقین کا اثر دُور کرنے کے لئے چند اور تقریریں بھی ہوئیں اور ہر تقریر میں فرعون سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ موسیٰ اور ہارون اور تمام جادوگروں کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر آل فرعون ہی کے ایک فرد نے اٹھ کر سلطان جابر کے دربار میں کلمہ حق کہنے کی جرأت کی اور کہا:

”اے لوگو! تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو رہے ہو، جس کا قصور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اپنا مالک و مولا اللہ کو قرار دے رہا ہے۔ اور کسی دوسری طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ حالانکہ وہ تمہیں اپنے دعوے کے ثبوت میں واضح اور بین دلائل سنا چکا ہے اور ایسے کرشمے بھی دکھا چکا ہے جو انسان کی دسترس سے باہر ہیں۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اپنے اس جھوٹ سے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کیونکہ جھوٹے کو کسی جگہ بھی فوز و فلاح نصیب نہیں ہوا کرتی۔ اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہئے۔ کیونکہ جس عذاب کی وہ تمہیں خبر دے رہا ہے وہ ضرور تم پر آ کر رہے گا۔ خدائی طاقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور جو شخص خدا پر جھوٹ لگائے گا۔ وہ ضرور ہی اپنے کئے کی سزا پائے گا لیکن اگر فی الواقع وہ خدا ہی کی

آواز لے کر آیا ہو تو ہم اس ساز و سامان کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آج بلاشبہ ہم ملک میں غالب ہیں۔ حکومت اور اقتدار کی باگ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ طاقت و جبروت اور جاہ و حشمت ہمارے گھروں کی لونڈیاں ہیں لیکن کل اگر ہم کسی خدائی عذاب میں مبتلا ہو گئے تو ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔“

فرعون : اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اس شخص کا قصہ ہی پاک کر دو تاکہ کسی قسم کے فتنہ و فساد کا اندیشہ باقی نہ رہے۔

شخص معلوم : لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس خدائی پیغمبر کی بات مان لی تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں اور اگر ہم نے اس کے پیغام کو تسلیم نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری قوم کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ نوح، عاد اور ثمود کی قوموں کی تاریخ کے صفحات ہمارے سامنے کھلے پڑے ہیں۔ ان اقوام نے مادی اور دنیوی ترقی میں کیا کچھ حاصل نہیں کیا تھا۔ لیکن خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کو بھٹانے کے باعث وہ سب کی سب فنا ہو گئیں۔ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے موسیٰ کی بات کو نہ مانا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ جو عاد و ثمود اور قوم نوح کا ہوا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس سے قبل یوسفؑ بھی ہمیں خدا پر ایمان لانے کے لئے تبلیغ کر چکا ہے لیکن اس وقت بھی ہماری قوم کے لوگ اس کے بتائے ہوئے دین کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے رہے اور جب وہ فوت ہو گیا تو سمجھنے لگے کہ اب خدا کا کوئی پیغمبر ہمیں اپنے طریقوں پر ٹوکنے کے لئے مبعوث نہیں ہوگا۔“

”اے میری قوم کے لوگو! میں تمہاری بھلائی کے لئے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ دنیوی تباہی سے قطع نظر کر کے ذرا اس انجام پر غور کرو جو آخرت

کی زندگی میں آنے والا ہے۔ اگر خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پناہ ہوئی باتیں صحیح ہیں تو خدا را غور کرو کہ حشر کے روز تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں بھی سرفرازی اور عزت کی زندگی بسر کرو اور آخرت میں بھی جنت کے وارث بن جاؤ۔ ان مقاصد کے حصول کا طریق فقط یہی ہے کہ خدا کو مانو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ۔ میں تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں لیکن تم مجھے ایسے مجہول معبودوں کی طرف بلا رہے ہو جن کے متعلق مجھے کسی قسم کا علم نہیں کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے آج حق بات تم سے کہہ دی ہے۔ اگر مان لو، تو بہتر ورنہ یاد رکھو کہ ایک نہ ایک روز تم میری ان باتوں کو یاد کر کے پچھتاؤ گے۔ بھائیو! میں آج سے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو کرو۔ وہی خدا جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور جیسے جیسے کسی کے عمل ہوں گے اسی کے مطابق اُسے اجر مل جائے گا۔“

جب فرعون نے دیکھا کہ خود اس کی قوم کے معتبر افراد موسیٰ (علیہ السلام) کے پیغام سے متاثر ہو رہے ہیں تو اُس نے اپنی روش میں کسی قدر نرمی پیدا کر لی اور موسیٰ و ہارون اور خدا پر ایمان لانے والے جادوگروں کو قتل کرنے یا انہیں قید میں رکھنے کے خیال سے باز آ گیا۔ اُسے اندیشہ تھا کہ اس کا کوئی حریف بنی اسرائیل کے اضطراب اور موسیٰ کے رسوخ سے فائدہ اٹھا کر منصب فرعونیت چھیننے کی کوشش نہ کر بیٹھے۔ تاہم اُس نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ میں تجھے خدا کا بھیجا ہوا رسول تسلیم نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں سرے ہی سے کسی خدا ودا کا قائل نہیں۔ لہذا میں اس امر کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکال لے جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ اس کا انجام تمہارے لئے اور تمہاری قوم

کے لئے اچھا نہ ہوگا۔

موسیٰ فرعون کے یہ الفاظ سن کر بہت آزرده ہوا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے کہ ”اگر تم نے خدا کے پیغام کو مسترد کر دیا تو تم پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوں گے اور چند دنوں کے اندر اندر تم دیکھ لو گے۔ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کی سزا تمہیں کیا ملتی ہے۔“

فرعون نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ساتھ بھیجنے اور اپنی غلامی سے نجات دینے سے انکار کر دیا۔ آل فرعون نے اس فیصلہ کی تصدیق کی۔ اس کے بعد سرزمین مصر پر خدائے جبار و قہار کی آیات پے در پے ظاہر ہونے لگیں۔ دریائے نیل کا پانی سرخ ہو گیا۔ مچھلیاں اور تمام دریائی جانور مر کر سطح آب پر بنے لگے۔ مینڈکوں کی بہتات نے جو دریاؤں اور جھیلوں سے نکل نکل کر خشکی پر پھیل گئے تھے آل فرعون پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ صاف پانی کی قلت کے باعث آل فرعون کے بدن اور گھر میلے ہو گئے اور ان کے کپڑوں میں کثرت کے ساتھ جوئیں پڑنے لگیں۔ مصیبت بالائے مصیبت یہ کہ افریقہ کے صحراؤں سے آنے والے ایک ٹڈی دل نے اہل مصر کی فصلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ پچھتم کی طرف سے چلنے والی آندھی نے اہل مصر کو ٹڈیوں سے نجات دلائی۔ تو تیرہ و تار بادلوں نے آسمان مصر کا احاطہ کر لیا۔ رعد اپنے زور کے ساتھ گرجنے لگا۔ بجلیاں تڑپ تڑپ کر آل فرعون کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے لگیں اور اولوں کی موسلا دھار بارش نے رہی سہی فصلوں پر تباہی پھیر دی۔ موسم کھلا تو طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ آل فرعون کے افراد

مرنے لگے۔ حیوانات بھی لقمہ نہنگ اجل ہونے لگے۔ فرعون جانتا تھا کہ یہ سب بلائیں اسی کے عصیان و عدوان کا نتیجہ ہیں اور آل فرعون کے افراد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ سب مصیبتیں موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی لائی ہوئی نحوستوں کا نتیجہ ہیں لیکن فرعون بنی اسرائیل کو ہجرت کی اجازت دینے سے انکار کر چکا تھا اور اپنے بندوں کے سامنے یہ دعویٰ کر چکا تھا کہ میں ہر طرح کی آفات ارضی و سماوی کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور کسی قوت کے سامنے خواہ وہ کتنی ہی فوق الفطرت کیوں نہ ہو سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ اس لئے ہر ارضی مصیبت نے اس کی شقاوت قلبی میں اضافہ کر دیا اور ہر آسمانی بلا نے اس کے کفر و عصیان کو بڑھا دیا۔ فرعون نے جو خدائے ذوالجلال کے مقابلہ میں اجرام فلکی پر اپنی طاقت و سطوت کا جھنڈا گاڑنے کے دعوے کر چکا تھا، کرۃ ارضی کی حقیر موجودات یعنی جوؤں، کھٹملوں، پسوؤں، پھھروں، مینڈکوں، ٹڈیوں اور طاعون کے جراثیم کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا لیکن خدائی عظمت و جبروت کے جس انکار پر وہ قائم ہو چکا تھا، اس سے دست کشی اختیار کرنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ آل فرعون کے افراد جو آئے دن کی ان مصیبتوں اور بلاؤں سے تنگ آ گئے تھے۔ خود بخود بنی اسرائیل کے افراد سے کہنے لگے کہ تم چوری چھپے ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ تاکہ ہمارے سروں سے تمہاری لائی ہوئی نحوستیں دُور ہوں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ نحوستیں خود انہی کے عصیان و گوشمالی کا نتیجہ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق مختلف گوشوں سے سر نکال نکال کر آ رہی ہیں۔ یہ تمام بلائیں جو عالم مادی کے اندر مختلف صورتوں میں ظاہر ہو رہی ہیں ان مکروہات کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ رکھتی ہیں جن سے انہوں نے اپنے عالم روحانیات کو بھرپور کر لیا ہے۔

ایک رات جبکہ تیرہ و تار بادلوں نے وادئ نیل کی آسمانی فضا کو گھیر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کے قبائل جوق در جوق مدینۃ الفرعون سے باہر نکلنے لگے۔ آل فرعون کے افراد میں سے کسی نے ان کے ساتھ تعرض نہ کیا۔ کیونکہ وہ ان آسمانی بلاؤں سے مرعوب ہو چکے تھے جو پے در پے ان پر نازل ہو رہی تھیں۔ کسی نے فرعون اور اس کے عمائد و اعیان کو اطلاع نہ دی کہ غلاموں کی قوم نے ہجرت پر کمر باندھ لی ہے اور اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ وہ آئندہ غلامی اور ذلت کی زندگی بسر نہیں کریں گے۔

اگلے روز جب فرعون کو بنی اسرائیل کے کوچ کر جانے کی اطلاع ملی۔ تو اس نے آل فرعون کے عمائد کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ جب کثرت رائے نے یہ خیال ظاہر کیا کہ عبرانیوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے تو اس نے بھی اغماض سے کام لیا۔

بنی اسرائیل کے خانہ بدوش قبائل موسیٰ کی سرکردگی میں مصر کے مشرقی بیابانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاں پر نوع انسانی کی کوئی نسل آباد نہ تھی اور سفر کی منزلیں مارتے ہوئے بحیرہ قلزم کی اس شمالی خلیج کے ساحل پر جا پہنچے۔ جو جزیرہ نمائے سینا کے مغرب کی طرف واقع ہے۔ اس مقام پر خانہ بدوشوں کے اس گروہ نے ڈیرے ڈال دیئے۔

ادھر مصر میں بنی اسرائیل کے ہجرت کر جانے کے بعد موسم کی نیرنگیاں موقوف ہو گئیں۔ دریائے نیل کا پانی بھی چند روز کے اندر اندر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ طاعون کی وبا ڈور ہو گئی۔ جوئیں، کھٹل، پسو اور مینڈک ناپید ہونے لگے اور آل فرعون کسی قدر آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔

غلاموں کے وجود سے مصر کی سرزمین خالی ہو چکی تھی اس لئے آل

فرعون کے افراد بذنی مشقتوں کا کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ جو بیٹھے بٹھائے ہر طرح کا عیش و آرام حاصل کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ بڑی شدت کے ساتھ غلاموں کی ضرورت محسوس کرنے لگے اور ہر طرف لوگ یہ شکایت کرتے سنائی دینے لگے کہ ہم تو بنی اسرائیل کو ملک سے نکل جانے کی اجازت دے کر عجب مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔

فرعون نے اپنی قوم کے افراد کا ایک لشکر جرار تیار کر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تاکہ ان غلاموں کو جو قدرت کے اتفاقی حوادث سے فائدہ اٹھا کر ان کے پنچے سے نکل گئے تھے، بزور واپس لایا جائے۔

بنی اسرائیل کو اس وقت خبر لگی۔ جب فرعون کا لشکر ان سے ایک منزل کے فاصلہ پر آ پہنچا۔ وہ سخت پریشان ہوئے ایک طرف بحیرہ قلزم کا موجیں مارتا ہوا پانی تھا جو دُور تک پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری جانب لشکر فرعون کے ان گنت افراد کا ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو ان پر دھاوا بول انہیں پھر غلام بنانے کا عزم لے کر آیا تھا۔

بنی اسرائیل کے خانہ بدوش قبائل کے پاس کشتیاں نہ تھیں کہ ان پر سوار ہو کر جان بچا سکتے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے کہ اپنے سابق آقاؤں کا مقابلہ کر کے اپنی تازہ حاصل کی ہوئی آزادی کی حفاظت کر سکتے۔

موسیٰ اور اس کی قوم کے افراد بحیرہ قلزم کی لہروں کو دیکھ رہے تھے اور بنی اسرائیل کے چہلوں میں یہ خواہش موجزن ہو رہی تھی کہ یہی لہریں انہیں سر چھپانے کے لئے جگہ دے دیں تاکہ آل فرعون کے جبار و قہار انسانوں کے پنچے میں گرفتار ہونے سے بچ جائیں۔

مغرب کی طرف گرد و غبار کی آندھیاں آسمان کی طرف بلند ہوتی دکھائی دینے لگیں اور بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ فرعون کا لشکر ان کے



سروں پر آن پہنچا اور اب چند ساعتوں کے اندر انہیں پابدست دگرے دست بدست دگرے از سر نو غلام بن کر مصر جانا پڑے گا۔

موسیٰ علیہ السلام نے بحر مواج پر ایک نگاہ ڈالی اور اپنے عصا کی ضرب سے پانی کی کمر پر تازیانہ لگایا۔

جس مقام پر عصا سے ضرب لگائی گئی تھی۔ اس کے دونوں طرف پانی کی موجیں ریت کے ان ٹیلوں کی طرح بلند ہونے لگیں جو کسی ریگزار میں حد نگاہ تک ایک دوسرے سے سر نکالتے ہوئے پھیلے ہوں۔ ساحلی زمین نے زلزلے کا ایک خفیف سا جھٹکا محسوس کیا۔ شمالی موجیں شمال کی جانب اور جنوبی موجیں جنوب کی طرف لوٹ گئیں۔ سطح بحر کی زمین کسی قدر اُپر اُبھر آئی اور بنی اسرائیل کی متحیر و متعجب نگاہوں نے دیکھا کہ سمندر میں سر تا سر ایک راستہ بن گیا ہے۔ جس کے دونوں طرف پانی کی لہریں سنگین فصیلوں کی طرح کھڑی ہیں۔

بنی اسرائیل موسیٰ کے پیچھے پیچھے اس خشکی پر اُترنے لگے جو سمندر کے پانیوں میں رُونما ہو گئی تھی اور اس راستے پر ہو لئے جو بحیرہ قلزم کے پانی نے شق ہو کر ان کے لئے چھوڑ دیا تھا۔

بنی اسرائیل نے ابھی نصف راہ طے کی تھی کہ فرعون کا لشکر بھی ساحل بحر پر آن پہنچا اور قُدرت کے اس کرشمہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سمندر نے ان کے غلاموں کو آگے جانے کے لئے راہ دے دی ہے۔

فرعون کے لشکری قُدرت کے اس منظر عجیب کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ فرعون نے اپنا ہاتھ اسی راستے پر ڈال دیا جس پر سے بنی اسرائیل کا گروہ گزر چکا تھا۔ فرعون کا لشکر بھی اس کے پیچھے پیچھے اس شاہراہ پر ہو لیا جو سمندر نے اپنا سینہ شق کر کے حصول آزادی کا عزم کرنے والے غلاموں کے

لئے تیار کی تھی۔

ادھر بنی اسرائیل کا آخری شخص اس ساری راہ کو طے کر کے بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل پر چڑھا۔ ادھر فرعونی لشکر کے عقب کا آخری آدمی اس راستے پر اتر آیا۔

بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کے دوسرے ساحل پر کھڑے لشکر فرعون کی یلغار کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ زمین کے اندر دوسری جنبش محسوس ہوئی اور پانی کی وہ چٹانیں جو اس راستے کے دونوں طرف دیواروں کی طرح کھڑی تھیں لپک کر ایک دوسری کے ساتھ ہم آغوش ہو گئیں۔

فرعون اور اس کے لشکری، اُن کے گھوڑے، اُونٹ اور رتھیں سب کے سب بحیرہ قلزم کی موجوں کی لپیٹ میں آگئیں اور فضائے سماوی کی موجودات نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا کہ ظالموں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔

آج اسی فرعون کی نعش جو مصر کے باقیماندہ باشندوں کو ساحل بحر پر ملی تھی اور جسے انہوں نے اپنے ملک کے رواج کے مطابق اہرام کے اندر دفن کر دیا تھا، لندن کے عجائب گھر میں عصر حاضر کے فراعنہ کو درس عبرت دے رہی ہے۔

## سیلِ عرم

اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے شاعرانہ اکتاہٹ اور ناشکری

راستہ مٹی کی اس ضخیم تہ کے نیچے دب کر ناپید ہو چکا تھا جو سیلاب کے گزرنے اور پانی کے خشک ہو جانے کے بعد سطح ارضی پر جم جایا کرتی ہے۔ چاروں طرف جھاڑ اور سرکنڈے کی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں، جن کو گیدڑوں، لومڑیوں اور کئی قسم کے دوسرے جنگلی جانوروں نے آباد کر رکھا تھا۔ کہیں کہیں ببول اور بیری کے خود رو پودے بھی جھاڑیوں سے سر نکالتے ہوئے اور ان کانٹوں کی پرورش کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے جو اس جنگل میں سے گزرنے والے انسانوں کے تلووں کو درد کی لذت سے آشنا کر سکیں۔ شردار دخت میلما میل تک کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اگر سیب یا انار یا کسی اور پھل کا کوئی پودا مل بھی جاتا تھا تو اس کا ما حاصل اس قدر کڑوا، ترش اور بد ذائقہ ہوتا تھا کہ انسان کا حلق انہیں نگلنے سے صاف انکار کر دیتا۔ دن کے وقت آفتاب کی تمازت اور حرور کی حدت یہ کہتی سنائی دیتی تھی کہ اس سرزمین نے مدت سے بادلوں کے سائے کا نام و نشان تک نہیں دیکھا۔

اس ماحول میں ملک شام کا ایک شترسوار ملک یمن میں سے گزر رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا کہ اس ملک کی آبادیاں جو اپنی گنجائی کے باعث شہرہ آفاق

تھیں کدھر چلی گئیں اور اس کی سرسبزیاں اور شادابیاں جن پر ملکہ سبا کی عظمت و شوکت کے افسانے شاہد و دال تھے، کہاں مفقود ہو گئیں۔

کامل دس دن اس یکہ و تنہا مسافر کو اس سرزمین میں کسی انسان کی صورت دکھائی نہ دی اور نہ اُسے کوئی ایسے آثار نظر آئے جن سے وہ اندازہ لگا سکتا کہ وہ کسی معمورہ انسانی کے قریب پہنچ گیا ہے۔

دن کے وقت بولوں کے سائے میں ستا ستا کر اور رات کے وقت جنگلی جانوروں کے ہیبت ناک شور و غل کے درمیان بسرا کر کے وہ شب و روز اس سمت کی طرف چلتا گیا۔ جس کی طرف رخ کرنے سے قطب شمالی کا ستارہ اُس کے سر کے پیچھے رہتا تھا اور صبح کو طلوع ہونے والا آفتاب اُس کے بائیں ہاتھ کی سمت سے نکلتا تھا۔

گیارہویں دن وہ جنگل میں آباد ہونے والے خانہ بدوش انسانوں کی ایک آبادی میں پہنچا جو سرکنڈے سے بنائے ہوئے چھپروں اور اونٹ کی کھال سے بنائے ہوئے خیموں میں مقیم تھے۔

مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی ایک مختصر سی جماعت اس مسافر کے گرد جمع ہو گئی۔ سب نے اس نووارد کو اہلا و بہلا کہا اور وطن مالوف، منزل مقصود اور مقصد سفر کے متعلق معمولی استفسارات کر کے سب اپنے اپنے دھندوں میں مشغول ہو گئے۔ شیخ قبیلہ نے جو اسی سال کا ایک عمر رسیدہ بزرگ تھا مسافر کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلایا۔

شیخ اور شامی مسافر اکیلے رہ گئے۔ ان کے مابین ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ شام کی سرزمین اور وہاں کے باشندوں کے حالات کے متعلق عام استفسارات کرنے کے بعد شیخ نے ایک آہ سرد بھر کر کہا:

”کبھی ہمارا ملک بھی سرسبزی و شادابی میں رشکِ فردوس تھا۔ ہماری

قوم بھی خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہماری زمین جو اب جھاڑ اور سرکنڈے کی جھاڑیوں اور بھول کے پودوں سے پٹی پڑی ہے سات سال پیشتر لہلہاتی ہوئی سرسبز کھیتوں اور ثمرات سے لدے ہوئے باغوں سے معمور تھی۔ جن میں انسان بلبلوں کی طرح چہماتے پھرتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی اور تجارت کی گرم بازاری نے ہمیں مغرور کر دیا اور ہم اس خالق اکبر کی ناشکر گزاری کرنے لگے۔ جس نے ہمیں ہر قسم کا عروج دے رکھا تھا۔ ہم سب گنہگار ہو گئے اور ہم پر خدا کا غضب ایک ہیبت ناک شکل میں نازل ہوا۔ ہم چین سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ کوہستان پر بارشیں برسنے لگیں اور پانی کا ایک سیل رواں غراتا ہوا پہاڑوں پر سے اُترا۔ جس نے ملک سبکی ساری زمین میں تباہی پھیلا دی۔ ہمارے کھیت اُجڑ گئے۔ ہمارے باغات ویران ہو گئے۔ ہماری بستیاں سیلاب کے آگے بہہ نکلیں۔ ہزاروں انسان اور لاکھوں حیوان اس سیلاب کی لپیٹ میں آکر مر گئے۔ ہر طرف لاشیں بہتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ ہماری قوم اس سیل عام کو روکنے کی کوئی تدبیر نہ کر سکی جو آبادیاں پہاڑوں کے دامن سے ذرا دُور واقع ہوئی تھیں انہوں نے اپنے بچاؤ کے لئے بند تعمیر کئے لیکن سیلاب نے وہ بند بھی توڑ ڈالے اور آبادیاں بھی ویران کر دیں۔ بہت کم لوگ اس مصیبت سے بچ سکے اور زمین سراسر ویران اور بے آباد ہو گئی۔“

چند لمحہ توقف کرنے کے بعد شیخ قبیلہ نے شامی مسافر سے کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی بولے ہوئے استکبار کے باعث وقوع پذیر ہوا۔ ہماری شامت اعمال سیلاب کی صورت میں سامنے آگئی۔ ہمارے لوگوں کی طبیعتیں خوشحالی کی زندگی سے سیر ہو گئی تھیں۔ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنے کے بجائے ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا استخفاف کرنے لگے اور ایسے گیت گایا

کرتے تھے جن میں اس تباہی و بربادی کی تمنا کی جاتی تھی۔ اگر تم ہماری قوم کی ناشکر گزاریوں کا حال معلوم کرنا چاہو تو اس کتبہ کو جا کر پڑھو جو ہماری قوم کے ایک شاعر نے مینار پر کندہ کرایا تھا اور جو اب بھی قریب کے جنگل میں ہماری قوم کے غرور اور اھتکبار پر شہادت دے رہا ہے۔

شامی مسافر نے جنگل میں جا کر ایک قد آدم مینار کو دیکھا جو پتھر کی ایک سالم چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس مینار پر اس زمانہ کے رسم الخط میں چند اشعار کا ایک قصیدہ کندہ کرایا گیا تھا۔ جس کا مفہوم ذیل کے الفاظ میں درج کیا جاتا ہے:

”سبا وانے سفر کے لطف سے محروم ہو گئے کیونکہ ان کے ہاں ہر طرف باغات اور ہر طرف آبادیاں نظر آرہی ہیں۔

عدن سے لے کر اُمّ القریٰ تک چلے جاؤ۔ یمن و یسار پر اہل ماتے کھیتوں اور شردار باغوں کے سوا اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔

اس راہ پر قدم قدم پر منزلیں اور جا بجا آبادیاں ہیں۔ گویا عدن سے لے کر مکہ تک ہی بازار ہے جس میں ہر قوم کے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔

مسافر کا قدم ایک آبادی کی حد سے باہر بھی نکلنے نہیں پاتا کہ نگاہیں دوسری آبادی کی دیواروں سے جا ٹکراتی ہیں۔

ہماری سواریوں کے اُونٹ ایک شب و روز کی مسلسل تشنگی کے لطف سے بھی لذت اندوز نہیں ہو سکتے۔

سفر کا لطف حضر موت یا رُبَع خالی کے صحراؤں میں ہے جہاں ریت کا ایک بحر ناپیدا کنار پھیلا ہوا ہے۔

جہاں منزلوں تک کسی نخلستان کا نام و نشان نظر نہیں آتا اور کوئی

انسان یا حیوان دکھائی نہیں دیتا۔

ہماری قوم کے راہرو اس کیفیت کے لطف سے سراسر نا آشنا ہیں جو لقمہ  
و دق صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر اُونٹ زنج کر کے اس کی اوجھ سے پانی نکالنے  
اور اُسے نوش جان کر کے پیاس بجھانے میں حاصل ہوتا ہے۔

یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہم آسانی سے زندگی کے مایحتاج حاصل کر  
لیتے ہیں اور حصول معاش کے لئے کچھ بہت زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔  
ہماری قوم کے افراد اس قدر کیوں بڑھ گئے ہیں کہ ان کی آبادیوں کے  
باعث ہمارے اُونٹوں کو اپنی دوڑ کا حوصلہ نکالنے کے لئے میدان نہیں مل  
سکتا۔

کیا یمن اور سبا میں بھی کبھی یہ کیفیت حاصل ہو سکے گی کہ ہم اپنی  
سانڈھنیوں پر سوار ہو کر شب و روز چلتے جائیں اور بادِ سموم ہمارے عزائم اور  
ہماری قوت برداشت کا امتحان لے رہی ہو۔

انسان کی کوئی آبادی ہمارے مسافروں کو اہلاً و سہلاً و مرجہا کہنے والی  
موجود نہ ہو۔“

شامی مسافر نے یہ کتبہ پڑھا اور اُس نے سمجھ لیا کہ سبا کے لوگ قادر  
مطلق کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکر گزاری کرنے کے باعث کون سے روحانی  
امراض میں مبتلا ہو چکے تھے جو اُن پر سیلِ عرم کی سی ہولناک تباہی لانے پر منتج  
ہوئے۔

## یروشلم کی بربادی

دیکھ لو۔۔۔ نافرمان قوموں پر قہر خداوندی کیسے ٹوٹتا ہے!

تیسرے پہر کے آفتاب کی دُھوپ پھیل چکی ہے اور اس سرزمین کے اہلہاتے ہوئے سرسبز کھیتوں اور باغوں پر جہاں شہد کی مکھیاں اعلیٰ ترین غسل مصفے بہتات کے ساتھ تیار کرتی ہیں، پھیکے زرد رنگ کا طلائی نور نچھاور کرتی نظر آ رہی ہے۔

یرزعیل دہقان کے تین قد آور جوان بیٹے کو لھو سے روغن زیت نکال نکال کر دوسرے برتنوں میں ڈال رہے ہیں۔ بوڑھا یرزعیل جس کے سر اور داڑھی کے سفید ملائم بال سنبل کو بھی شرمنا رہے ہیں۔ اپنے گلی مکان کے صحن میں ایک تخت چوبین پر بیٹھا اپنے نومند بیٹوں کے کام کو غور سے دیکھ رہا ہے اور ان کی گفتگو کو جو کام کے ساتھ ساتھ جاری ہے، پوری توجہ سے سُن رہا ہے۔

افلال نے جس کے بشرہ پر عنقوان شباب کی رعنائیاں کھیل رہی ہیں اپنے بھائیوں سے کہا:

”بھائی! آپ نے کچھ سنا۔ خینیاہ بنی نے یرمیاہ بنی کا وہ جوا توڑ ڈالا جو اُس نے بنی اسرائیل کو دوسری اقوام کا غلام بنانے کے لئے تیار کیا تھا۔ خینیاہ



بنی نے یرمیاہ بنی کی بددعا کا اثر زائل کر دیا۔ اب یروشلیم برباد نہ ہوگا اور ہیکل کے طلائی ظروف جو سلیمان ذی شان اور دوسرے بادشاہوں نے اس معبد کی نذر کئے تھے کسی غیر قوم کے قبضہ میں نہیں جائیں گے۔ نہ اُس کی فصیل ٹوٹے گی اور نہ وہ شہر اور اس کی ہیکل آگ کی نذر ہو سکے گی اور ہماری قوم اس ذلت اور مصیبت سے بچ جائے گی جس کی پیشگوئی یرمیاہ بنی نے کر رکھی تھی۔“

سب سے بڑے بھائی مسلام نے جس کی گھنی داڑھی کے بال شب دیبجور کی سیاہی کو بھی شرما رہے تھے کہا:

”افلال! تم ان نبیوں و بیوں کے قہقہے زیادہ غور سے نہ سنا کرو۔ کچھ عرصہ سے ہماری قوم میں اس قدر بہتات کے ساتھ نبی پیدا ہونے لگے ہیں کہ کوئی قریب اور کوئی بستی ان کے وجود سے خالی نہیں جس کو دیکھو خدا کا مرسل بن کر لوگوں کو ڈراتا پھرتا ہے اور اپنی نبوت اور کرامت کا سکہ بٹھانے کے لئے بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے۔“

نبوت و رسالت کا ہر مدعی اپنے آپ کو برحق اور دوسرے دعویٰ دارانِ نبوت کو مفتری قرار دے رہا ہے۔ ہم جیسے عام لوگوں کے لئے یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ کس نبی کی بات مانیں اور کس کے قول کو مسترد کر دیں کس کو سچا سمجھیں اور کس کو جھوٹا قرار دیں۔

افلال: جو نبی کرامت دکھائے اور جس کی پیشگوئی پوری ہو جائے وہی سچا ہے۔

یرمؤخ: (تیسرا اور منجھلا بھائی) ہمارے گاؤں کے کاہن کی پیشگوئیاں سو میں سے پچانوے حرف بحرف پوری ہو جاتی ہیں اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ محل کے اس مندر کا بڑا پجاری جو سامریہ میں ہے، کامل و اکمل کاہن ہے۔

مسلم: تم نے اس سے ملاقات کی ہے؟  
یرمؤخ: ہاں میں اپنے کسدی (بابلی) دوستوں کے ہمراہ اُس کی زیارت  
کر چکا ہوں۔

مسلم: تم نے یروشلم کی تباہی یا سلامتی کے متعلق کوئی سوال کیا؟  
یرمؤخ: میں نے پوچھا۔ اُس کا جواب یہ تھا کہ یروشلم زندہ رہے گا۔  
اس پر مصیبتیں نازل ہوں گی، لیکن اس کا نشان قائم رکھا جائے گا اُس کے نام  
کی بڑائی میں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا۔

افلال: اب خنیشیاہ نبی نے بھی خدا کا یہ پیغام سنا دیا ہے کہ یروشلم کی  
ایک اینٹ تک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلائی جائے گی اور یرمیاہ نبی مگادہ جوا جو  
اُس نے کاہنوں اور ربیوں سے ناراض ہو کر بنی اسرائیل کی گردنوں کے لئے  
تیار کیا تھا، توڑ ڈالا ہے۔

یرمؤخ: یرمیاہ کی نوع کے نبی پچھلے بادشاہوں کے عہد میں بھی  
ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر اپنا رعب بٹھانے کے لئے یہی پیش  
گوئیاں کی تھیں کہ یروشلم برباد ہو جائے گا اور خدا کی برگزیدہ اور مصل دیوتا  
کی پیاری قوم بنی اسرائیل دُنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ پچھلے بادشاہوں  
نے ایسے بد زبان نبیوں کو قتل کرا دیا۔ صوفیا بادشاہ کو بھی چاہئے کہ یرمیاہ کو  
سولی پر چڑھا دے تاکہ پھر کسی کو ایسی بڑی پیش گوئیاں کرنے کی جرأت نہ  
ہو۔

مسلم: اگر بددُعائیں دینے والے نبی سچے ہوتے تو یروشلم کی جگہ آج  
بیابان نظر آتا اور ہم لوگ یا تو مر چکے ہوتے یا اپنے کھیتوں کے بجائے کسی  
دوسری قوم کے باغوں میں غلامی کی زندگی بسر کرتے نظر آتے لیکن خدا  
ہمارے بادشاہ صدقیہ کو سلامت رکھے۔ یروشلم کی رونق آج بھی اس طرح

برقرار ہے جس طرح سلیمان ذی شان کے عہد میں تھی۔ کسدی عورتیں آج بھی بنی اسرائیل کے نوجوانوں پر اسی طرح عاشق ہیں جس طرح بنی کے زمانہ میں عاشق تھیں اور بنی اسرائیل کی دولت میں آج بھی کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ ہیکل کے طلائی ظروف جو بابل کا بادشاہ بنو کد نصر ہمارے سابق بادشاہ یہو تقیم سے خراج کے طور پر لے گیا تھا وہ واپس مل جائیں گے۔ خینیاہ نبی کی پیشگوئی پوری ہو کر رہے گی۔ یرمیاہ جیسے بدگو قتل کر دیئے جائیں گے۔“

اس موقع پر پیر مرد یزرعیل نے اپنی برف کی مانند سفید پلکیں اور سفید بھوس اُپر اٹھا کر اپنے بیٹوں کی طرف نگاہ کی اور ہاتھ کے اشارہ سے اُن سب کو اپنے پاس بلایا۔

مسلم، یرمؤخ اور افلال بوڑھے باپ کے تخت چوبیس کے ارد گرد مؤدبانہ طریق سے بیٹھ گئے اور یزرعیل نے کامل آہستگی کے ساتھ لب کھولتے ہوئے کہا۔

”بیٹو! میں نے تمہاری باتیں غور سے سنی ہیں۔ یروشلیم کی تباہی کے متعلق کئی نبیوں نے پیشگوئیاں کی ہیں لیکن ابھی تک یروشلیم تباہ نہیں ہوا۔ جس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابھی ہماری قوم میں خدا کے نیک بندے موجود ہیں جن کی روحانی طاقت نے ان بلاؤں کو یروشلیم پر گرنے سے روک رکھا ہے جو اس کے لئے فرشتوں کے دفاتر میں مقدر ہو چکی ہیں۔ یروشلیم کی تباہی کے متعلق پیشگوئی کرنے والے نبی جھوٹے نہ تھے۔ ہماری قوم کے اکثر افراد جن غفلتوں اور سیہ کاریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ یقیناً ہماری قوم کے سر پر بہت بڑی مصیبت لانے کا سبب بن کر رہیں گی۔ زمانے کی حالت مجھے دگرگون نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے گھروں کی چھتوں پر آج کسادیوں کے محل دیوتا اور غیر قوموں کے جھوٹے معبودوں کے بت نصب ہو رہے ہیں۔ بد اخلاقی کا

یہ عالم ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کھلم کھلا زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔  
 لواطت کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکا دیتے ہیں۔ پڑوسی  
 پڑوسی کے حقوق کو نہیں پہچانتا۔ بھائی بھائی کے حقوق کو نہیں جانتا۔ بیٹا باپ کا  
 نافرمان ہے اور باپ بیٹے پر قربان۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ  
 آثار بنی اسرائیل کے عروج کی تباہی کی نشانیاں ہیں جو زمانہ گذشتہ کے جید اور  
 مصدقہ رسول بھی بتا گئے ہیں ہمارے ربی اور ہمارے کاہن ہم سے حق بات کو  
 چھپاتے ہیں اور مال لے کر جس طرح کا چاہیں فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ موسیٰ کی  
 شریعت کو توڑ مروڑ کر اپنے حسبِ مطلب بنا لیتے ہیں۔ خدا کے کلام کو اپنی  
 خواہشات کے مطابق بدلنے سے بھی نہیں چوکتے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ  
 بنی اسرائیل میں جھوٹے نبی کثرت سے پیدا ہونے لگے ہیں اور ان میں سچے  
 اور جھوٹے کی تمیز کرنا ذرا مشکل کام ہو گیا ہے۔ ہمارے بادشاہوں کی حالت  
 اور بھی رڈی ہو چکی ہے وہ اپنے عیش و عشرت میں مست رہتے ہیں۔ ربی،  
 کاہن اور مفتی سب ان کی خواہشات پوری کرنے کے لئے خدائی احکام میں  
 ردوبدل کرتے رہتے ہیں اور بد بختی یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ سچے نبیوں کے  
 دشمن بن جاتے ہیں اور جھوٹوں کی پیروی کرتے ہیں۔ غوام الناس بھی ان کی  
 تقلید میں خدا کے مرسلوں کو ہنسی میں اڑانے اور ان سے استہزا کرنے سے باز  
 نہیں رہتے۔ میں نے یرمیاہ نبی کی زیارت نہیں کی اور نہ خینیاہ نبی کو دیکھا  
 ہے لیکن میرا دل زمانہ کی حالت کو دیکھ کر گواہی دینے لگتا ہے کہ یرمیاہ سچا  
 ہے۔ اگر ہماری قوم نے اپنی بد کرداریوں سے توبہ نہ کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ  
 کہیں یروشلیم تباہ نہ ہو جائے اور بنی اسرائیل پھر کسی فرعون کے غلام نہ بن  
 جائیں۔ بیٹو! تم کسی نبی سے خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا استہزا نہ کیا کرو اور ہر وقت  
 خدا کے قہر سے ڈرتے رہو کہ کہیں ہماری قوم بربادی کا شکار نہ ہو جائے۔

موسیٰ کے خدا کی عبادت کرتے رہو۔ بنی اسرائیل کے خدا کے لئے نذریں گزراؤ اور عام لوگوں کی دیکھا دیکھی کسدیوں کے محل کی پرستش میں گرفتار نہ ہو جو۔ کسدی عورتیں تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں وہ اسرائیل کے نوجوانوں کو مہلا پھسلا کر گمراہ کر دیتی ہیں۔ تم ان کے ہتھکنڈوں سے بچو۔ اگر تمہاری زندگی میں بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو تو موسیٰ اور ہارون کے خدا کے آگے عاجزی کرنا اور گڑگڑانا اور وقت کے سچے نبی کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ میں چند دن کا مہمان ہوں اس لئے تمہیں نیک و بد میں تمیز کرانے کے لئے موجود نہیں رہوں گا۔ تم خود اپنی زندگیوں کو نیک بناؤ اور خدا کے نیک بندوں کی اطاعت کرو۔“

افلال نے کہا۔ ”ابا ہمیں اپنے پڑانے آباؤ اجداد کے قصے سناؤ تاکہ ہمارے مضطرب دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔“

یزرعیل بولا۔ ”فرزندو! ہماری قوم پر خدائے رحیم و کریم کے بہت سے انعام ہیں لیکن بنی اسرائیل کی بد بختی کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے قصوں کو یکسر فراموش کر چکے ہیں اور اگر سنتے بھی ہیں تو ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یوسف کا قصہ تو تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا۔ سنو، جب یوسف نے فرعون مصر کا وزیر مختار بن کر اپنے بھائیوں کو مصر میں آباد کر لیا اور ان کی اولاد ترقی کر گئی تو مصریوں نے انہیں اپنا غلام بنا کر رکھا۔ ان پر طرح طرح کی سختیاں کرنے لگے اور ان پر ذلتیں برسائے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھا کر بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا۔ فرعون کا لشکر دریائے قلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے ریگستانوں میں خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں خدا کی طرف سے انہیں ہر صبح کھانے کے لئے من ملا کرتا تھا جو راتوں رات خدا کی بخشش سے آسمان کی بلندیوں سے نازل ہوتا اور

جنگل کی بوٹیوں پر برف کے گالوں کی مانند جم جایا کرتا تھا ان ہی جھاڑیوں میں قدرت کے بھیجے ہوئے پرندے جن کو سلوئی یعنی بیئریں کہتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں آجاتے تھے۔ جن کا شکار کر کے بنی اسرائیل انہیں بھون کر کھاتے۔ اگر ہمارے وہ بزرگ صبر سے کام لیتے تو یہ زندگی ان کے لئے بڑی نہ تھی لیکن انہوں نے طمع کر کے زیادہ سے زیادہ من جمع کرنا اور زیادہ سے زیادہ شکار کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ خدا کا حکم جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اُترا تھا یہ تھا کہ ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی روزانہ ضرورت کے مطابق جنگل سے من لیا کرے اور حسب حاجت بیئریں کا شکار کیا کرے۔ اسی پر خدا ناراض ہو گیا اور من و سلوئی کی مقدار میں کمی واقع ہونے لگی اور قوم کے اکثر لوگ بھوکوں مرنے لگے اور جنگل کی زندگی ان پر تلخ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تو ہمارے بزرگ آگے بڑھ کر ایک سیر حاصل زمین پر قابض ہو گئے جہاں پر انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں بسائے۔ اب انہیں حصول معاش کے لئے کھیتی باڑی بھی کرنی پڑی اور وہ زمین پر محنت کر کے اپنے لئے غلہ اور سبزیاں وغیرہ پیدا کرنے لگے۔ کچھ لوگ پاس کے سمندر سے مچھلیاں پکڑتے لیکن یہاں پھر انہوں نے خدائی احکام کی نافرمانی کی۔ سبت کے دن کا احترام توڑ دیا۔ اُس دن بھی کام کرنے لگے۔ خدا کا غضب پھر اُن پر نازل ہوا اور ان میں وبائیں پھیل گئیں۔ اُن کی محنتوں میں سے برکت اُڑ گئی۔ قحط سالی نے اُن کا قافیہ تنگ کر دیا۔ کئی افراد جو خدا کی حضور میں سخت گنہگار تھے بندر بن گئے۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ خدائے قدیر سے اُن کے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہاں سے موسیٰ انہیں اور آگے لے آیا اور انہیں کوہ طور کے دامن میں ایک شہر آباد کر لیا اس جگہ پر پان کی بہت قلت تھی۔ قدرتی تالابوں کا پانی اُن کے اور اُن کے جانوروں کے

گزارے کے لئے یہ مشکل کفایت کرتا تھا۔ موسیٰ نے خدا سے دُعا کی اور اس کی قدرت سے پہاڑ کے دامن میں پانی کے بارہ چشمے اہل پڑے۔ جن کو ہماری قوم کے بارہ قبیلوں نے آپس میں بانٹ لیا۔

موسیٰ نے سب سے پہلے اپنی مسافری کے زمانہ میں کوہ طور پر خدا سے ملاقات کی تھی۔ اب پھر وہ خدا سے ہمکلام ہونے کے لئے کوہ طور پر گیا اور چالیس دن اور چالیس رات وہاں رہا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر خدا کی عبادت چھوڑی اور وہ سامری قبیلے کے چھڑے کی پرستش کرنے لگے جو سونے سے بنایا گیا تھا۔ مال و زر فراہم کرنے کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کا حق مارنے لگے۔ موسیٰ چلہ کشی کے بعد واپس آیا تو اُس نے اپنی قوم کو پھر گمراہی میں مبتلا پایا۔ اب اُن پر خدائے قہار کی طرف سے طرح طرح کی بلائیں نازل ہونے لگیں۔ وبائیں ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑیں۔ وہ پھر موسیٰ کے آگے جا کر گڑ گڑائے۔ موسیٰ نے حکم دیا کہ جو لوگ گو سالہ سامرہ کی پرستش کے ذمہ دار ہیں وہ خود کشی کر لیں یا ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو خدا کا قہران پر سے ٹل سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خدا کا قہران کے سروں پر سے دُور ہو گیا۔

موسیٰ کی وفات کے بعد اس کا جانشین یوشع اپنی قوم کو لے کر چلا تاکہ انہیں اس موعودہ سرزمین کی طرف لائے جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا گھرانہ تھی۔ خدا نے ہماری قوم پر انعام کیا اور ہمیں ان قوموں کے مقابلہ میں فتح و نصرت عطا فرمائی جو اس سرزمین میں ہمارے آنے سے پہلے آباد تھیں۔ ہمارے بزرگ اس برکت والی زمین میں رہنے سہنے لگے جو ہمارا وطن ہے اور خدا کے نبی اور اُن کے فرمانبردار قاضی ہمارے باہمی جھگڑے چکایا کرتے اور

ہمیں خدا کی عبادت میں مصروف رکھا کرتے تھے۔

پھر ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے خدائی احکام کی متابعت چھوڑ دی اور ذرا ذرا سی بات پر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ قاضیوں کے فتاویٰ سے سرتابی کرنے لگے۔ جس کی سزا انہیں یہ ملی کی یہودیہ اور اسرائیل کے گرد و نواح میں بسنے والی اقوام کے بادشاہوں نے ان کی بہت سی بستیوں پر قبضہ جما لیا انہیں اپنے گھر بار سے نکال دیا۔ ان کے اموال کو لوٹ لیا اور انہیں اپنی تاخت و تاراج کی آماجگاہ بنا لیا۔ پہلے کوئی حملہ آور ہوتا تھا تو بنی اسرائیل کے تمام قبائل کے سلسلہ جو ان خود بخود شوق سے مقابلہ کرنے کے لئے نکل پڑتے تھے لیکن اب وہ جنگ و جدال سے جی چڑانے لگے۔ جب ہمسایہ اقوام کی تاخت و تاراج نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو وہ پھر اپنے وقت کے نبی کے پاس گئے اور اُس سے کہنے لگے کہ دوسری اقوام کی طرح ہمارے درمیان بھی کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے جو غیر اقوام کے مقابلہ میں ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کی حفاظت کیا کرے۔ پھر جب اللہ کے نبی نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تو بہت سے لوگ اس پر معترض ہونے لگے اور اُس سے حسد کرنے لگے۔

طالوت نے حملہ آور قوم کے مقابلہ کے لئے بنی اسرائیل کا ایک لشکر تیار کیا اور خدا کے نبی نے اس لشکر کو برکت دی اور کہا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ لشکر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ راستے میں پانی کی ایک نہر پڑی اور خدا کے نبی نے طالوت بادشاہ کی معرفت لشکر کو یہ حکم دیا کہ کوئی شخص اس نہر سے پانی نہ پیئے اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے شوق جہاد کا امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا وہ میدان جنگ میں اپنے سردار اور سالار کا حکم مانیں گے یا نہیں۔ لشکر کے اکثر اشخاص نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور



صرف چند سو آدمیوں کی ایک مختصر سی جماعت ایسی نکلی جو اپنے وعدے پر قائم رہی۔ طالوت نے نافرمان لوگوں کو واپس کر دیا کیونکہ وہ خدا کی راہ میں لڑائی کرنے سے جی چڑاتے تھے اور مجاہدین کی مختصر سی ٹولی لے کر دشمن کے مقابلہ میں جھنڈے گاڑ دیئے۔

غنیم کے لشکر کے سردار جالوت نے اسرائیلیوں کو مبارزت کے لئے لکارا تو کسی شخص کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ جن بہادروں نے اس سے جنگ کی وہ اس کے ہاتھ سے مارے گئے۔ آخر داؤد نے جو ایک نوجوان لڑکا تھا سنگ فلاخن سے زیر کر کے قتل کر دیا اور اسرائیلیوں کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے اور قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود لڑائی کا میدان ان کے ہاتھ رہا۔ خدائے ذوالجلال نے ان مجاہدوں کے طفیل بنی اسرائیلیوں کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کر دیا اور یروشلم میں بادشاہی کی بنیاد رکھ دی گئی۔

طالوت کے بعد داؤد بادشاہ بنا جس نے گرد و نواح کی تمام دشمن اقوام سے جنگ کر کے ان کا زور توڑ ڈالا۔ ان کے کئی قلعے فتح کر لئے اور ان کی بہت سی زمین چھین لی۔ داؤد کے بعد سلیمان<sup>۱</sup> ذیشان بادشاہ ہوا۔ جس کے عہد میں دولت بنی اسرائیل کے گھر کی کنیر بن گئی۔ ہر طرف سے خراج آنے لگے۔ سببا کی ملکہ نے اطاعت قبول کی اور لبنان کے بادشاہوں نے خدمت گزاری پر کمر باندھی۔ اسی بادشاہ کے عہد میں خدا کی ہیكل تعمیر کی گئی اور تمام وہ طوائف ظروف اس میں رکھے گئے جن میں سے کچھ بابل کے بادشاہ بنوکد نصر کے ملازمین ہمارے بادشاہوں سے جبراً وصول کر کے لے گئے تھے۔

سلیمان<sup>۲</sup> کے بعد دولت کی فراوانی نے پھر بنی اسرائیل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ بادشاہ اور امراء کس دی عورتوں سے شادی کر کے ان کے طریقوں

پر چلنے لگے۔ گھر گھر میں بابلوں کے محل دیوتا کی پوجا ہونے لگی۔ عیش و عشرت نے بنی اسرائیل کو گناہ کی لذت سے آشنا کر دیا اور اکثر لوگوں نے خدائے ذوالجلال کی قدرتوں اور نعمتوں کو فراموش کر دیا۔

خدا کے نبیوں نے انہیں ان کی گمراہیوں پر ٹوکا، ان کے عیوب سے انہیں آگاہ کیا اور اس مصیبت سے جو خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوگی انہیں ڈرایا لیکن بنی اسرائیل اب عیش و عشرت میں اس قدر بدست ہو چکے تھے کہ انہوں نے خدا کے نبیوں کو قتل کرنا، ان سے استہزاء کرنا، ان کو اذیت دینا اور انہیں ملک سے نکالنا شروع کر دیا۔ کاہنوں اور فریسیوں نے مومئی کے دین کو اپنی ہوس پروری کا ذریعہ بنا لیا۔ حق بات کو چھپانا اور باطل کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ عوام الناس میں ہزاروں اقسام کی سیہ کاریوں کے ساتھ ساتھ بت پرستی بھی عود کر آئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پھر ہم سے ناراض ہو گیا، اور ہماری زمین بابل اور مصر کے بادشاہوں کی یلغاروں کے نیچے پامال ہونے لگی اور ہمارے بادشاہ باج گزار رجواڑوں کی حیثیت میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل سمجھتے اور اپنی خرابیوں کی اصلاح کے درپے ہوتے لیکن شکم کے بندے جھوٹے نبی جو ہم میں کثرت کے ساتھ پیدا ہونے لگے ہیں انہیں گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مجھ جیسے بوڑھے جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں دنیا سے ناپید ہو رہے ہیں اور تم ایسے نوجوانوں کی حالت بہت خراب نظر آتی ہے۔ تم میں غیر معبودوں کی پرستش کرنے والے بابلوں اور قبلیوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تمہارے اعمال بھی وہی ہیں جو ان کے ہیں اور تمہارے خیالات و جذبات بھی غیر معبودوں کے پجاریوں کی طرح دنیوی جاہ و جلال کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یروشلم کی بربادی کے دن نزدیک آ رہے ہیں اور

بنی اسرائیل کی ذلت و خواری کی ساعت سر پر آ پہنچی۔ تم نئی نسل کے جوان شاید بوڑھے کی باتوں پر یقین نہ کر سکو لیکن میں ان نبیوں کی پیشگوئیوں کو راست سمجھتا ہوں جو تباہی و بربادی کی ساعت کے قریب آنے کے متعلق حکم لگا رہے ہیں اور جو پیشگوئیاں تمہیں اور تمہارے کاہنوں، فریسیوں، امیروں اور بادشاہوں کو بڑی لگتی ہیں۔

مسلم : جس خدا نے ہمیشہ بنی اسرائیل کی ناز برداری کی اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود انہیں مدد دی، کیا اب ان کی مدد نہ کرے گا اور اس برگزیدہ قوم کو ذلیل ہونے دے گا۔

یزرعیل : برخوردار! خدا کی مدد کی اولین شرط یہی ہے کہ ہم اسی کے ہو جائیں اور اس کے فرامین کی اطاعت کریں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھروں سے خدا کو نکال کر اُس کی جگہ محل کو کرسی نشین کر دیں، اس کے نبیوں کی توہین کریں اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں اور وہ ہمیں ہمارے دشمنوں کے مقابلہ میں ہمیشہ مدد دیتا رہے اور ہماری ناز برداری کرے۔

مسلم : لیکن جن قوموں کے ہاتھوں وہ ہمیں سزا دے رہا ہے یا سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی تو اُسے ماننے والی نہیں۔

یزرعیل : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری بد اعمالیوں کی سزا ہمیں کافروں اور مشرکوں کے ہاتھ سے دلائے اور ہمیں پھر اسی طرح دوسروں کا غلام بنا دے جس طرح کہ ہمارے آباؤ اجداد آل فرعون کے غلام بنے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ارضی و سماوی آفتیں بھیج کر ہمیں نیست و نابود کر دے۔

مسلم : ابا جان! آپ کے خیالات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن میں آپ سے کہے دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں میں اب اپنی آزادی

برقرار رکھنے کا کافی جوش پیدا ہو چکا ہے۔ اب ہم خدا کی مدد کے بغیر کسدیوں کا مقابلہ کریں گے اور یہ نوجوان جن کو آپ بدکاریوں کے طعنے دے رہے ہیں دکھا دیں گے کہ ان کے بازوؤں میں کس قدر قوت ہے اور وہ اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ صدقیہ نے عزم مصمم کر لیا ہے کہ وہ بنو کد نصر کو شکست دے کر ان ظلامی ظروف کو حاصل کر کے رہے گا جو اس کے اعمال نے خراج اور نذرانوں کی شکل میں یہو لقیم سے وصول کئے تھے۔ بنو کد نصر کا مقابلہ کرنے کے لئے فوج کی بھرتی شروع ہو چکی ہے اور چند ماہ کے اندر اندر دشمن پر چڑھائی بول دی جائے گی۔ ہمارے نوجوان پریمیہا بنی اور آپ جیسے بوڑھوں کی حوصلہ شکن باتیں سننے کے لئے تیار نہیں۔ ہم خدا کے نام پر نہ سہی اپنے بادشاہ اور اپنے وطن کے نام پر بنو کد نصر کا مقابلہ کریں گے اور اسے اس کے غرور کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔

یزرعیل : عزیزو! اب تمہارا دور ہے۔ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے کرو لیکن بوڑھے کی یہ بات یاد رکھنا کہ موسیٰ اور ہارون کے خدا کو ناراض کر کے تم کسی مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

بنو کد نصر کی فوجیں چھ ماہ سے یروشلم کا محاصرہ کئے پڑی ہیں۔ شہر میں سامان خورد و نوش کی کمی کے باعث بنی اسرائیل کو انتہائی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے۔ بھوک کی شدت سے بچے تلملا رہے ہیں۔ عورتوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ مرد جن کو شبانہ روز فصیل پر بیٹھ کر پہرہ دینا پڑتا ہے بہت افسردہ خاطر نظر آتے ہیں۔ چھ ماہ کے دوران میں اسرائیلی نوجوان

بنو کد نصر کی فوج کے ساتھ شہر پناہ سے باہر نکل کر متعدد لڑائیاں لڑ چکے ہیں لیکن انہیں محاصرہ توڑنے میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ ہزارہا جنگی دلاوران لڑائیوں میں بابلی لشکر کے تیروں، تلواروں اور نیزوں کا ہدف بن کر کام آچکے ہیں اور یروشلم کے اندر قریب قریب ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے یرمیاہ نبی کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے کیونکہ اسرائیلی امراء کا خیال ہے کہ بنو کد نصر کی چڑھائی کی ذمہ داری اسی کی ہلاکت خیز پیشگوئی پر عائد ہوتی ہے۔ اہل شہر موت اور ہلاکت کے فرشتوں کو چاروں طرف گھیرا ڈالے دیکھ رہے ہیں اور یرمیاہ نبی کی پیشگوئی کے باور نہ کرنے کے لئے کوئی معقول وجہ اُن کے پاس باقی نہیں رہی لیکن اس کے باوجود یرمیاہ پر بنو کد نصر کا جاسوس اور بنی اسرائیل کا قومی غدار ہونے کے الزامات عائد کئے جاتے ہیں اور بادشاہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کاہنوں اور فریسیوں کی انانیت اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ یرمیاہ کو خدا کا سچا پیغمبر مان کر اپنی بد کرداریوں سے توبہ کر لیں اور اپنی قوم کو اسی خدائے قدیر کی بارگاہ میں جھکنے کے لئے کہیں جس نے اُن کے آباؤ اجداد کہ آل فرعون کے پنجہ سے نجات دلائی تھی اور دوسرے ہزار ہا مواقع پر اُن کی مدد کی تھی۔ بادشاہ، امراء، فریسی، کاہن اور لشکری سب کے سب بابلوں کے دیوتا، محل کے حضور میں نذریں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پجاریوں کی قوم کے دل میں محاصرہ اٹھانے کا خیال ڈال دے۔ لڑکے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، مرد آگ لگا کر تپاون تپاتے ہیں۔ عورتیں تھوڑا تھوڑا آٹا جمع کر کے لاتی ہیں تاکہ روٹی پکا کر آسمان کی ملکہ کے نام پر جلائی جائے۔ شاید وہ ملکہ ہی اپنے پجاریوں یعنی اہل مصر کو اُن کی مدد کے لئے بھیج دے۔

مسلم، یرمؤخ اور افلال ایک پھانک کے برج پر بیٹھے اس صورت

حال کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تینوں اسلحہ بند ہیں ان کا بوڑھا باپ یزر عیال فوت ہو چکا ہے اور یہ تینوں راہ گم کردہ اسرائیلی نوجوانوں میں شامل ہو کر یرمیاہ نبی کی پیشگوئی کے جھٹلانے کے لئے بنو کد نضر کی افواج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔

افلال نے کہا: آپ کو مرحوم و مغفور ابا جان کی وہ باتیں یاد ہیں جو انہوں نے موت سے چند روز قبل اسرائیلیوں کی اور یروشلیم کی تباہی کے متعلق کی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خیال صحیح تھا اور ہم سب ایک لا حاصل کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

مسلم: اگر گذشتہ چھ ماہ میں ہم بنو کد نضر کے کدیوں کو مہلکت نہیں دے سکے یا انہیں تھکا کر پسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ یرمیاہ نبی کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ یروشلیم کی فصیلیں ناقابل تخیر ہیں اور اسرائیل کے نوجوانوں کا جوش فداکاری ابھی سرد نہیں پڑا۔ ہمارا بادشاہ پہاڑ کی طرح اپنے عزم پر قائم ہے۔ تمام کاہن اور فریسی امراء اور اعیان یرمیاہ نبی کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی اسے قتل نہیں کیا گیا۔ بنو کد نضر کی فوجیں شکست کھا کر پامال ہو چکیں گی تو اس جھوٹے اور ذلیل نبی سے اس کی نبوت کے متعلق باز پرس کی جائے گی اور اُسے دکھا دیا جائے گا کہ اسرائیلیوں نے اُس کے خدا کی مدد کے بغیر دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر فتح حاصل کی۔

افلال: اور اگر اس جنگ میں بنو کد نضر کو فتح حاصل ہوئی تو۔۔۔۔؟  
مسلم: اگر بفرض محال اسرائیلیوں نے بنو کد نضر کے مقابلہ میں شکست کھائی تو ہم مصر کو چلے جائیں گے اور فرعون مصر سے جو بنو کد نضر کا دشمن ہے مدد مانگیں گے۔ محل کے مقابلہ میں آسمان کی ملکہ کو لا کھڑا کریں

گے لیکن یرمیاہ نبی کے خدا کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ جس نے بنو کد نصر کے مقابلہ میں ہماری مدد نہیں کی۔

پھانک سے جس کے بڑج پر یہ تینوں بھائی کھڑے مصروف گفتگو تھے، کچھ فاصلہ پر بنو کد نصر کے عسکری بھاری بھر کم برموں سے فصیل میں چھید پیدا کر رہے تھے۔ افق مشرق پر سپید صبح نمودار ہو رہا تھا۔ ستارے جھلملا جھلملا کر آپس میں چشمک زنی کر رہے تھے کہ محاصرین کے انبوہ میں مسرت و شادمانی کے فلک شکاف نعرے بلند ہونے لگے۔ محل دیوتا راجے کے جیکاروں نے یروشلم کے در و دیوار میں لرزش پیدا کر دی اور بنو کد نصر کے لشکریوں کا جم غفیر اس شکاف کی طرف ٹوٹ پڑا جو انہوں نے فصیل میں پیدا کر دیا تھا اور تمام غلغلہ ہائے مسرت اسی کامیابی کی بنا پر بلند ہو رہے تھے۔

بنو کد نصر کے لشکری دیکھتے دیکھتے شہر میں داخل ہونے لگے جو سامنے آتا سے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیتے۔ یا نیزوں سے چھید ڈالتے۔ کوچوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہ گئیں۔ شہر پناہ کے پھانک یکے بعد دیگرے کھلنے لگے۔ اسرائیلی سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر بھاگے اور گھروں میں روپوش ہونے لگے۔ کسدیوں نے گھروں کے دروازے توڑ توڑ کر انہیں باہر نکالا اور جس کو جنگی لباس میں ملبوس پایا تہ تیغ کر ڈالا۔ اسرائیلیوں کا بادشاہ چور دروازے سے باہر نکل گیا لیکن محاصرین کے انبوہ کثیر نے جو ٹڈی دل کی طرح ارض فلسطین میں پھیلا ہوا تھا اسے گرفتار کر لیا۔ بنو کد نصر نے اس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا اور پھر اس کی آنکھیں نکلا دیں۔ بقیہ السیف اسرائیلیوں نے اطاعت قبول کر لی یا جس طرف سینگ سمائے نکل گئے۔ خداوند کی ہیکل تاخت و تاراج کر دی گئی۔ تمام طلائی ظروف، ریشمیں قناتیں اور پردے، پیتل کے حوض اور دیگیں اور دوسرا سازو سامان جو اس

ہیکل میں اندوختہ ہو کر بنی اسرائیل کے جاہ و حشمت کی گواہی دے رہا تھا، بنو کد نضر اور اس کے اعیان و عمائد کے کام آیا۔ کسدیوں نے شہر کو جی بھر کر لوٹا اور اسرائیلی عورتوں کو ذلیل کیا۔ ان کے کاریگروں کو قید کر کے بابل لے گئے اور آخر کار اس یروشلیم کو نذر آتش کر دیا گیا جو اسرائیلیوں کے ہشتہا پشت کے تمدن کا سرمایہ تھا۔

بنی اسرائیل کے جو گروہ مصر میں پناہ گزین ہوئے اور آسمان کی مدد پر ستمش کر کے اُسے اپنی مدد پر ابھارنے لگے۔ طرح طرح کی وباؤں کا شکار ہو گئے۔ بنو کد نضر کی افواج نے مصر تک ان کا پیچھا کیا اور انہیں وہاں سے بھی نکال دیا اور بنی اسرائیل کرۂ ارضی پر تتر بتر ہو کر ذلت و مسکنت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج تک ان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ کسی خدائی مناد کو پہچان کر اس کے کہے پڑ چلتے اور خدا کے اُس غضب کو دُور کرنے کے لئے جو ان پر ان ہی کی بد کرداریوں کے باعث نازل ہوا اُس کی بارگاہ میں تائب ہوتے۔ چنانچہ آج تک اسرائیلیوں کی زندگی بے نظیر تمول کے باوجود آیہ قرآنی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے۔ باور نہ ہو تو اس قوم کی پراگندگی، پریشان حالی، ذلت اور تسفل کو ایک نظر دیکھ لیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ قرآنی نافرمان بردار قوموں کو کس طرح سزا دیا کرتا ہے۔



## ابابیل کا ہجومِ عام

### اصحابِ حیل کا عبرت ناک انجام

یمن کے والی ابرہہ کی فوجیں اُمّ القریٰ کے جنوب میں ڈیرے ڈالے پڑی ہیں۔ جس نے ہاتھیوں کے ایک لشکر جرار کو ساتھ لے کر مکہ پر اس مقصد کے لئے چڑھائی کی ہے کہ معبد ابراہیمی کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سامنے سر نیاز جھکانے کے لئے تعمیر کیا گیا تھا اور بت خانہ بن جانے کے باوجود اقوام و قبائل عرب کے خلوص و مہمیت کا مرجع سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح مسمار کر دے کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہ جائے۔

ابرہہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں بیٹھ کر جب یہ سنا کرتا تھا کہ بنو اسمعیل کے تمام قبائل کی گردنیں اس معبد کے سامنے جھک جاتی ہیں اور ان کی مانی ہوئی منتیں وہیں جا کر ادا کی جاتی ہیں تو اس کی چھاتی پر حسد کے سانپ لوٹ لوٹ جاتے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ ملکی اقتدار اور دنیوی جاہ و جلال آج میرے ہاتھ میں ہے۔ اقوام عرب کا کوئی شیخ مجھ جیسا طاقتور اور صاحب اقتدار نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ میرے آستانہ جلال کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اپنی ولی مہمیت اور روحانی اخلاص کی نذریں لے کر خانہ کعبہ کی

طرف بھاگتے ہیں۔ جس کی حیثیت تراشیدہ اور ناتراشیدہ پتھروں سے بنے ہوئے ایک گھر سے زیادہ نہیں۔

ابراہیم نے اپنے ہاں بھی ایک کعبہ بنا کر کوشش کی تھی کہ لوگ عبادت کے اس مرکز کی طرف رجوع کریں اور بیت اللہ شریف سے منہ موڑ لیں لیکن عرب جو خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کے پجاری بن چکے تھے، اس در و دیوار سے اپنا رشتہ اخلاص توڑنے کے لئے آمادہ نہ ہوئے۔ جن کے ساتھ ان کے ابولاآباء حضرت ابراہیمؑ اور ان کے گھرانے کی روایات وابستہ تھیں۔ اسمعیلؑ کی آل کے لئے ناممکن تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دیں جس کی بنیادیں ان کے جد امجد نے اپنے ہاتھوں سے استوار کی تھیں اور جس کی برکت و حرمت کے باعث انہیں جدال و قتال کے لامتناہی سلسلہ میں امن و امان کی جگہ مل جاتی تھی۔

ابراہیم کا بنایا ہوا معبد نذر آتش ہو گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ابراہیمؑ کے بنائے ہوئے معبد کو مسمار کر کے رہے گا۔ اُسے کیا معلوم تھا کہ پتھروں سے بنایا ہوا یہ گھر بہت جلد صرف عرب کا نہیں بلکہ نوع انسانی کے تمام مومنین قانتین کے خلوص دل کا مرکز و مرجع بننے والا ہے۔

قریش جو مکہ کے باشندے اور کعبہ کے متولی تھے۔ باہمی خانہ جنگیوں کے باعث اس قابل نہیں رہے تھے کہ اپنے شہر اور اپنے معبد کی حفاظت کے لئے ابراہیم کی فوجوں کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ابراہیم کی چڑھائی کا مقصد وحید کیا ہے؟ لیکن ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس کے ہاتھیوں والے لشکر کے مقابلہ میں اس گھر کی حفاظت کے لئے اسلحہ اٹھا سکیں جو اقوام عرب میں ان کی عزت و توقیر کا کفیل تھا۔

ابراہیم کے سپاہیوں نے اپنے ڈیرے سے آگے بڑھ کر قریش کے وہ

اُونٹ پکڑ لئے جنہیں اُن کے چرواہے نواح مکہ کی پہاڑیوں میں لئے پھر رہے تھے اور قریش نے محسوس کر لیا کہ ابرہہ حملہ کر کے شہر کو برباد کر دے گا اور اُن کے مال و دولت کو لوٹ کر لے جائے گا۔

سردارانِ قریش نے باہمی مشورہ کر کے اپنے شیخ کبیر عبدالمطلب بن ہاشم کو ابرہہ کے ساتھ صلح کی گفت و شنید کرنے کے لئے بھیجا تاکہ حملہ آور کا عندیہ معلوم کرے اور اگر یہ مصیبت جنگ کے بغیر ٹالی جاسکے تو ٹال دی جائے۔

عبدالمطلب نے ابرہہ کے معسکر میں جا کر گفتگو کی اور محض دنیوی امور کے متعلق چند شرائط کر کے فیصلہ کر لیا کہ قریش ابرہہ کے لشکر سے متصادم نہ ہوں گے اور ابرہہ اُن کے جان و مال سے کسی قسم کا تعرض نہ کرے گا۔

ابرہہ نے کہا: ”تعب ہے کہ تم نے اپنے دادا ابراہیمؑ کے معبد کو میرے ہاتھوں سے بچانے کے لئے کوئی شرط پیش نہیں کی حالانکہ تمہاری عزت و توقیر بلکہ تمہاری ہستی اس کی موجودگی پر موقوف ہے۔“

عبدالمطلب نے جواب دیا: ”قریش میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی ہمت نہیں اور نہ اُن کے پاس اس قدر سامان ہے کہ وہ لڑائی کر سکیں۔ ہمارے دادا ابراہیمؑ کا معبد اس اللہ کا گھر ہے جس کا مخفی ہاتھ کائناتِ ارضی و سماوی کا انتظام کر رہا ہے۔ کرۂ ارضی کے تمام دیوتا اُس کے تابع فرمان ہیں۔ ضرورت ہوگی تو وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔“

ابرہہ بولا: ”پس میں اگر خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں اور اُس کا لمبہ اٹھا کر یمن لے جاؤں تو قریش کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔“

عبدالمطلب نے کہا: ”ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا ہم صرف اپنی جانوں

اور اپنے مالوں کی امان چاہتے ہیں۔“

عبدالطلب شرائط طے کر کے واپس آ گیا۔ قریش نے یہ شرائط قبول کر لیں اور رُوئے زمین پر ایک فرد واحد ایسا باقی نہ رہ گیا جو معبد ابراہیمی، خانہ کعبہ، بیت اللہ الشریف اور اس بیت عتیق کی حفاظت کرنے کے لئے سینہ سپر ہوتا جو بہت جلد مشرق و مغرب کا قبلہ بننے والا تھا۔

اگلے روز ابرہہ نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی پوری تیاریاں کر لیں۔ ادھر مشرق سے سفید روشنی کی شعاعیں رات کے مہند لکے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ ادھر ابرہہ کے مست ہاتھیوں کی فوج گھنگھور گھٹاؤں کی طرح منڈلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ جس کے پیچھے ہزاروں یمنی جوان تلواروں اور نیزوں سے مسلح ہو کر حرکت کر رہے تھے۔

مغرب کی طرف سے طیور کا ایک جھنڈ بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ چشم زدن میں ابابیلوں کے لشکر نے اس آسمان کو ڈھانپ لیا جس کے نیچے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادہ سے ہاتھیوں اور انسانوں کا ایک جم غفیر حرکت کر رہا تھا۔ ابابیلیں اپنے لمبے لمبے پر پھیلائے پوری سرعت کے ساتھ اڑائیں لے رہی تھیں۔ ان کی چونچوں میں ایسی مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو جم کر پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہو۔

دیکھتے دیکھتے ابابیلوں کی چونچوں سے کنکریاں گرنے لگیں اور ابرہہ کے لشکر پر بجیل کی ایک بے پناہ بارش برسنے لگی۔ جس کی نظیر اس سے قبل علم انسانی میں نہیں آئی تھی۔

ہاتھی اس بارش سے خوفزدہ ہو گئے وہ سراسیمہ ہو کر چاروں طرف بھاگے اور خود اپنی ہی فوجوں کو اپنے بھاری بھر کم قدموں کے نیچے روندنے لگے۔

لشکر میں ہلڑ مچ گیا۔ ہاتھی مہاوٹوں کے نافرمان ہو گئے اور چند ساعت کے اندر اندر ابرہہ کا لشکر جراز روندے ہوئے بھوسے کی مانند ہو کر رہ گیا۔ جس کو ان کے خُون اور اُن کے پیٹ سے نکلنے والی آلائشوں نے تر کر دیا تھا۔

---

## راہِ نجات

کفر و شرک کی ہمہ ہی سے خدائے لاشریک لہ کی بندگی اور عبادت کا سفر

اس معبد ابراہیمی کی چھت پر جو صدہا سال پیشتر کائناتِ ارضی و سماوی کے حقیقی مالک و مختار کے سامنے سرنیزا جھکانے کے لئے تعمیر کیا گیا تھا، ہبل کا دیو پیکر مجسمہ سنگی نصب ہو چکا ہے جو غرورِ متحجر کی ساکن و صامت تصویر بنا اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہزارہا انسانوں کے ایک بے مقصد ہجوم کو حقارت آمیز انداز کے ساتھ گھور رہا ہے۔ اُمُّ الْقُرْیٰ کے میدانوں، اس کی وادیوں، گھاٹیوں اور پہاڑیوں پر رنگا رنگ کے چھوٹے بڑے خیموں کی قطاریں نظر آ رہی ہیں اور متحرک و ناطق حیوانوں کا جم غفیر ہر طرف مختلف انواع کے لہو و لعب کی رنگ رلیوں میں مصروف ہے۔ الکحل کی سرچکرا دینے والی بونے بے شمار انسانوں اور حیوانوں کے تنفس کی ہوا کے ساتھ مل کر مکہ اور مضافات کی عام فضا کو مسموم کر رکھا ہے۔ جا بجا رقص و سرود کی محفلیں گرم ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں، بروں، بھیڑوں اور اونٹوں کے گوشت کے کباب تیار کئے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ٹولیاں مست ہاتھیوں کے غول کی طرح ادھر

سے اُدھر اور اُدھر سے اُدھر منڈلاتی پھر رہی ہیں اور مختلف اقسام کے سازوں کے آہنگ کے ساتھ آہنگ ملا کر انتہا درجہ کے عُریاں اور فحش گیت گاتی سنائی دیتی ہیں۔ انسانی حلقوم سے نکلنے والے شور و غوغا میں اُونٹوں کے بلبلانے اور برانے کی مسلسل و غیر منقطع آوازوں نے مل کر بے معنی غلغلہ کی ایک عجیب کیفیت پیدا کر رکھی ہے۔ جس میں کان پڑی آواز مشکل سے سمجھی جاتی ہے۔ مردوں کے جذباتِ شہوانی کو برا نگینتہ کرنے والے لباس پہن کر اور عروسائے نو کی طرح بناؤ سنگار کر کے آنے والی عورتیں انتہائی بیباکی کے ساتھ اپنے عہد کی معراجِ بے حیائی کا جا بجا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ جا بجا شراب کے نشہ سے بدست ہونے والے جوانوں کے گستاخ ہاتھ اُن اذن عام دینے والی عورتوں کے گلشنِ حُسن و شباب سے گل چینی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہیں مردوں کے ہجوم میں کسی لعبتِ طناز کی ازار خود بخود کھل کر زمین پر گر پڑتی ہے۔ کہیں عورتوں کے ہجوم میں کسی نوجوان کا تہ بند عہد ا کھول دیا جاتا ہے اور بے معنی شور و غل کا وہ طوفانِ بد تمیزی برپا ہوتا ہے کہ انسانوں کے گروہ پر شغالوں کا دھوکا ہونے لگتا ہے۔ سینکڑوں عورتوں اور صدہا مردوں کی ایک مخلوط جمعیت مادرِ زاد برہنگی کے عالم میں تالیاں اور سیٹیاں بجاتی ہوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ جس کے اندر اس عہد کے انسانوں کے اوہامِ باطلہ کی تمثیلیں تین سو ساٹھ بتوں کی مختلف صورتوں میں جلوہ افروز ہیں۔ غرض میلہ کیا ہے دورِ جاہلیت کے ان عربوں کے روحانی اور اخلاقی تسفل کا ایک مکمل و اکمل مظاہرہ ہے جو اُس شخص کی آل ہونے پر فخر کرنے کے عادی تھے جس نے اپنے باپ کی رویائے صادقہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی گردن خدائے واحد کی راہ میں کٹوانے کے لئے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش کر دی تھی۔

قریش کے چند نوجوان ماوراء النہر کی کسی بعید مملکت کے تاجروں کی ایک جماعت کو اپنے عکاظ کی رونق دکھانے اور میلہ کی سیر کرانے میں مصروف ہیں۔ پروسی تاجر عربوں کے اس کامیاب مظاہرہ شوکت و عشرت کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ”مئے دو سالہ و معشوق چار وہ سالہ کی جو ارزانیاں اُمّ القریٰ کے عکاظ میں دیکھی جا رہی ہیں وہ کسی دوسری قوم کے میلوں میں بہت کم میسر آ سکتی ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے اختلاط کی جو آزادی عربوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی نظیر ہندوستان کے برہمن اور ایران کے مجوسی بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ فصاحت و پلافت کے موتی رونے اور ارتجالاً شعر پڑھنے میں تو دنیا کی کوئی قوم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور شجاعت و ہیبت بھی آپ لوگوں کی ضرب المثل ہے، جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں نہیں مل سکتی۔“

خون کو گرما دینے والے تعریفی الفاظ سن کر ایک قریشی نوجوان جو شراب کے نشے میں بدمست ہو رہا تھا۔ جھوم جھوم کے شعر پڑھنے لگا۔ جن کا مفہوم قریباً قریباً تلوارہ حسب ذیل تھا: نیزے اور تیرے۔ جنگ کرنا عرب کی خصوصیت ہے۔ جسے وہ حرمت والے مہینوں کے سوا کسی وقت خیرباد نہیں کہہ سکتا۔“

”ضرورت پیش آ جائے تو ہم جنگ و جدال کے لئے حرمت والے مہینوں کو بھی حلال کر لیتے ہیں۔“

”عرب کے دو قبیلوں کے درمیان خون اور قصاص کی کشمکش شروع ہو جائے تو صدیوں تک ختم نہیں ہو سکتی خواہ قبیلوں کے جوان مرد عنقوان شباب ہی میں تلوار کے گھاٹ پار اترتے رہیں۔“

”ہم اپنے دشمنوں کو پکڑ کر آگ کی نذر کر دیتے ہیں۔ ان کی حاملہ



عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتے ہیں۔ بچوں کو تیروں کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ہم ان کے بوڑھوں پر بھی رحم نہیں کرتے تاکہ دشمنوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہ جائے۔“

”ہمارے دشمنوں کی روحیں بے قصاص رہتی ہیں۔ ان کی قبروں میں اندھیرا رہتا ہے کیونکہ ان میں ہمارے قبیلہ کے افراد سے اپنے مقتولین کا قصاص لینے کی جرأت نہیں ہوتی۔“

”اگر ہمارا کوئی عزیز کسی دشمن کے ہاتھ سے مارا جائے تو اس کی روح کو زیادہ دیر تک ہامہ بن کر نوحہ نہیں کرنا پڑتا۔ کیونکہ ہم بہت جلد قصاص لینے بلکہ بدلے کو المضاعف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔“

”ہم ایک جان کے بدلے اپنے دشمن سے دس دس اور بیس بیس جانیں سود کے طور پر وصول کرتے ہیں۔“

قبیلہ قریش کے نوجوانوں اور پردیسی تاجروں کی یہ ٹولی عکاظ کے بازاروں کی سیر کرتی اور رنگا رنگ کے تماشے دیکھتی ایک خیمہ کے قریب جا پہنچی۔ جس کے سامنے ایک بڑا سا بنانا بنا ہوا تھا۔ سائبان کے نیچے قبیلہ کے معززین کی ایک جماعت اونٹ کی کھالوں سے بنے ہوئے فرش پر دسترخوان بچھائے بیٹھی ان بروں اور گوسفندوں کے گوشت سے اپنے کام و دہان کی تواضع کر رہی تھی۔ جنہیں آنتوں اور فضلوں سے صاف کرنے کے بعد مسلم کباب کی طرح بریاں کیا گیا تھا۔ حاضرین مجلس نے تو واردین کو اھلاً وسھلاً کہا اور یہ لوگ بھی اسی دسترخوان پر بیٹھ گئے جس پر بھونی ہوئی مسلم گوسفندوں کے علاوہ چمڑے کی چھوٹی بڑی کیپوں میں شراب بھی دھری ہوئی تھی اور شراب پینے کے لئے لکڑی سے تراشے ہوئے پیالے بھی موجود تھے۔

یہ اہل مکہ کے ایک متوسط الحال گھرانے کا خیمہ تھا جو انہوں نے عکاظ

کی رنگ رلیوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے کوہ صفا کے دامن میں نصب کر رکھا تھا۔

کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب دسترخوان بڑھا دیا گیا اور لوگ مختلف قسم کے گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر استراحت کرنے لگے تو عورتوں کی ایک جماعت بلائی گئی جو شہوانی جذبات کو برا نگینہ کرنے والے گیت گا گا کر حاضرین کا دل بہلانے لگی۔ ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک دف تھی جسے وہ گانے کے ساتھ ساتھ بجا رہی تھی اور بعض عشوہ طراز عورتیں سرور و شراب کے نشے میں بدست ہو کر رقص بھی کر رہی تھیں۔

حاضرین مجلس جنت نگاہ اور فردوس گوش والی ان کیفیتوں سے سرشار ہونے کے ساتھ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، رقص کرنے والی اور گانے والی عورتوں کو داد تجسین بھی دیتے جا رہے تھے۔

حاضرین مجلس میں سے ایک نے پروسی تاجروں سے مخاطب ہو کر کہا۔  
”آج ہمارے دیوتا ہبل کی سر بلندی کا دن ہے۔ آج روئے زمین کے تمام دیوتا ہبل کے سامنے نذریں گزار رہے ہیں اور اس کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔“

ایک پروسی تاجر: ”بلاشبہ آج ہبل کا دن ہے اور روئے زمین کے کسی دیوتا کی شان اتنی بلند نہیں جتنی ہبل کی ہے۔“  
ایک قریشی شیخ: ”جس طرح مکہ ہفت اقلیم کی ناف ہے۔ اسی طرح ہبل بھی دیوتاؤں کا سرتاج ہے۔“

پروسی تاجر: میں نے روئے زمین کے اکثر ملکوں کی سیر کی ہے اور مختلف قوموں کے دیوتاؤں کے میلے دیکھے ہیں لیکن جو شان ہبل اور عکاظ کی ہے وہ کسریٰ کے درباروں اور قیصر کے جلوسوں میں بھی نظر نہیں آئی۔“

قریشی شیخ: یوں تو ہر قبیلہ اور ہر قوم اپنے اپنے دیوتا رکھتی ہے، جس کے وسیلے سے وہ اللہ یعنی زمین و آسمان کا انتظام کرنے والی مخفی قوت سے مدد مانگتے ہیں لیکن یہ مخفی قوت بھی ہبل کے تابع فرمان ہے اور اسی کے کہے پر چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں مختلف خیالات رکھنے والے لوگوں کے باوجود ہبل سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ ممتاز رہتا ہے۔“

پروسی تاجر: کیا مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہبل کو چھوڑ کر کسی دوسری طاقت کی پوجا کرتے ہیں۔“

قریشی شیخ: ”مکہ میں آپ کو ہر خیال اور ہر عقیدہ کے لوگ مل سکتے ہیں۔ یہاں سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والے مجوسی بھی ہیں، پارسیوں کی طرح آگ کو منظر خداوندی سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لات، منات، عزی، ود، سواع، یعوق اور نسر کو ماننے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ یونانیوں کی طرح مختلف ارباب النوع کے پجاری بھی ہیں۔ یہودی اور نصرانی بھی ہیں جو کسی دیوتا کے وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچانے کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کے بت بنا رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو دیوتاؤں کو نہیں مانتے لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ انسان دنیا کی مصیبتوں اور مشکلوں میں کس سے مدد مانگے۔ بعض لوگ آپ کو اس قسم کے بھی ملیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ ہی سب کچھ ہے اور ہر بات خود بخود وقوع پذیر ہوتی ہے اور کائنات کسی مقصد کے بغیر خود بخود ایک طریقہ پر چل رہی ہے۔ حال ہی میں بنو ہاشم کے ایک شخص محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نامی نے نیا طریقہ نکالا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت صرف اسی خدائے جلیل و قدیر کا حق ہے جس کے ہاتھ میں کائنات ارضی و سماوی کی کلیدیں ہیں جو کسی کی مدد کے بغیر ارض و سما میں فرماں فرمائی کر رہا ہے جو کسی

کی سفارش قبول نہیں کرتا اور اپنے کام میں کسی دوسرے کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ چند آدمی اس کے ہم خیال بھی بن چکے ہیں جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیرو ظاہر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قریش اور عرب ہبل اور دوسرے دیوتاؤں کا دامن چھوڑ دیں لیکن ہبل کی شان بلند ہے۔ اُس کے وسیلے کے بغیر انسان خدا کو نہیں پاسکتا، اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔

پروسی تاجر: ”بھلا دیوتاؤں کی مدد اور ان کے وسیلے کے بغیر بھی انسان کسی کام کا رہ سکتا ہے۔ یہ دیوتا ہی تو تھے جنہوں نے کائنات کی مخلی قوتوں کو قابو کیا۔ اگر عبادت کے لئے ان مجسموں کو سامنے نہ رکھا جائے تو وہ مخلی قوتیں انسان کے قابو میں نہیں آسکتیں اور نہ اس کی مدد کے لئے کمر بستگی ہو سکتی ہیں۔ چین و ماچین۔ ہندو فارس اور روم و مصر غرض ہر جگہ دیوتاؤں کے مجسمے موجود ہیں۔ ہر ملک کے لوگ ان ہی سے استمداد کرتے ہیں۔ انہی کو اپنی مدد کے لئے پکارتے ہیں۔ اگر ان کو ناراض کر لیں تو دُنیا تباہ ہو جائے اور انسان کی زندگی اس زمین پر محال ہو جائے۔ نہ آسمان سے بارشیں برسیں، نہ زمین سے اناج اگیں، نہ دولت پیدا ہو اور نہ انسان عیش و عشرت کے قابل ہو سکے۔ مشرق و مغرب میں ہر جگہ دیوتاؤں کی حکومت ہے اور دیوتاؤں کی طاقت ماننے سے انکار کرنا مہال پاپ ہے۔“

قریشی شیخ: ”ابھی ہمارے لوگوں نے اس محمدؐ اور اس کے دیگر بتوں سے منہ موڑنے والے رفقاء کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہیں کیا تاکہ ہمارے درمیان پھر ایک جنگ شروع نہ ہو جائے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ روئے زمین کے دیوتاؤں کا غضب ان پر نازل ہو اور وہ ہبل اور لات و منات کی توہین کرنے سے باز آجائیں۔ اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہبل کی عزت کی قسم ہم ان پر جینا محال کر دیں گے۔“

عورتیں گاتی بجاتی اور رقص کرتی ہوئی مردوں کے قریب آ کر پتنگوں کی طرح ان کی گودوں میں گرنے لگیں۔ مرد انہیں اپنے اپنے آغوش میں لے کر چومنے لگے۔ دو تیریاں اس شیخ اور پردیسی تاجر کے سامنے بھی آ بیٹھیں جو اپنے عہد کے معتقدات مذہبی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔

عکاظ کے میلہ میں جا بجا اسی قسم کے بلکہ اس سے بھی بدتر تماشے چشم فلک کو دکھائے جا رہے تھے اور صاف نظر آ رہا تھا کہ نوع انسان ہر قسم کے روحانی اور اخلاقی تسفل کا شکار ہو کر حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے اور کسی کو شرفِ انسانیت کے تحفظ کا خیال تک نہیں، تاکہ اپنی نوع کو بھیسروں، کتوں اور جنگلی جانوروں سے ممتاز ثابت کرے۔

کابل میں سال گزر گئے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں، منیٰ، عرفات اور مزدلفہ کے میدانوں، حرم کعبہ کی دیواروں اور مکہ کی عمارتوں نے اس دور میں سینکڑوں واقعات اور ہزاروں انقلابات دیکھ ڈالے۔ ب معبد ابراہیمی کی چھت پر سے ہبل کا مجسمہ غائب ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی چار دیواری تین سو ساٹھ بتوں کے خس و خاشاک سے پاک نظر آ رہی ہے۔ معبد ابراہیمی کا طواف کرنے والے لوگ گو اب بھی ہزارہا کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں لیکن اب ان کے جسم عکاظ کے میلہ کے ایام کی طرح عریاں نہیں۔ بلکہ سب کے سب احرام کی چادریں زیب تن کئے ہوئے شرفِ انسانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ عورتیں اب بھی اس گروہ میں موجود ہیں لیکن اب ان میں ہیں سال پہلے کی سی بے حیائی اور بیباکی سراسر مفقود نظر آ رہی ہے۔ لاکھوں انسانوں کا ہجوم منیٰ

اور عرفات کے میدانوں، مزدلفہ کی گھاٹیوں اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر اب بھی نظر آ رہا ہے لیکن لہو و لعب کی بد مستیوں میں مشغول ہونے والے انسانی حیوانوں کے بے معنی شور و شغب کی بجائے اب خدائے قدوس کی تکبیر و تہلیل کرنے والے بندوں کی زبانوں سے لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ کی صدائیں بلند ہوتی سنائی دے رہی ہیں۔ مست ہاتھیوں کے غول کی طرح گشت لگانے والے بے فکر نوجوانوں کی ٹولیوں کی بجائے اب شریف انسانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کو صلح و سلام کا پیغام دیتی ہوئی اخوت نوع انسانی کا مظاہرہ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ہوائی فضا الکحل کی سرچکرا دینے والی بُو سے یکسر خالی ہے بلکہ حاجیوں کے احراموں میں لگے ہوئے عطر ہوائی ترموچ میں مل کر خوشبو کی ایک لطیف سی کیفیت پیدا کر رہے ہیں جو ہر سانس لینے والے ذی روح کے لئے طبعی بیشاشت کا ایک خوش آئند پیغام ہے۔ بیس سال پہلے کے بھیڑ بھڑ کے کا مقصد رنگ رلیاں منانے اور انسان کے بہیمانہ خصائص کا مظاہرہ کرنے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بیس سال بعد کا اجتماع ہر طرح کی پاکیزگیوں کو ساتھ لے کر رب کعبہ کے سامنے جمع ہو رہا ہے۔ عکاظ کے میلہ میں جمع ہونے والے عربوں کا ہجوم شتر بے مہار کی طرح انسان کے سفلی خصائل کا اشتہار دیتا نظر آ رہا تھا لیکن عرفات کے میدان میں حج کے لئے آنے والے زائرین کا مجمع ضبط نفس اور تحمل و صبر سے کام لیتا ہوا اپنے شرف و مجد کا اعلان کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ بیس سال پہلے کے اژدہام میں انسان کے چھچھورے پن کی بد مستیاں اپنے عروج کمال کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ اب یہ جمعیت وقار و تمکنت کی ایک زندہ تصویر نظر آ رہی ہے۔ جس میں کسی لغوبات کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ اگر عام اجتماعوں اور میلوں سے کسی قوم کے خصائص و خصائل اور ان کے اعمال و عواطف پر نہایت آسانی سے

اور کسی قسم کی غلطی کے احتمال کے بغیر شہادت لی جاسکتی ہے تو صاف نظر آ جائے گا کہ بیس سال پہلے کے عرب کے سامنے اپنے حیوانی جذبات کی تکمیل اور شہوانی خواہشات کی تسکین کے سوا زندگی کا کوئی دوسرا مقصد ہرگز نہیں تھا لیکن بیس سال بعد کا عرب جو اسی مقام پر حج کے لئے جمع ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کو کسی مقصد بلند کے حصول کے لئے تیار کر چکا ہے کیونکہ وہ لغویات سے محترز، فواحش سے پاک اور لہو و لعب سے دور رہنے کا متمنی اور کوشاں ہے۔

اس مجمع میں وہ بوڑھا عجی بھی ہے جس نے بیس سال پیشتر اسی مقام پر عکاظ کے میلہ میں عربوں کے دور جاہلیت کی رونقیں دیکھی تھیں جسے بیس سال کے بعد اپنی زندگی میں عرب کی بستی میں اُمّ القریٰ میں آنے کا دوسرا موقع ملا ہے۔

اس عجی کی نگاہیں مجمع کی حالت اور اس کے افراد کی محویت کو دیکھ دیکھ کر ورطہ حیرت و استعجاب میں غرق ہوئی جاتی ہیں۔ اس کا دماغ بیس سال پہلے کے ہجوم اور اس کی کیفیات پر غور کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں شراب زدہ لوگوں کی رنگت اور حُسن بے حجام کی فراوانی دیکھنے کی آرزو مند ہیں۔ اس کے کان بدست نوجوانوں کے فحش اور عریاں گیت سننے کے لئے بیتاب ہیں۔ لیکن اب اسے ذوالجلال والاکرام پروردگار کی حضور میں سر بسجود ہونے والے مسلمانوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا اور خدائے قدوس کی تکبیر و تہلیل کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔

اس کا دماغ اس معمہ کو حل کرنے سے قاصر رہا جاتا ہے کہ ہبل اور لات و عزیٰ کے محسوس پیکروں کے پجاری کس طرح بیس سال کی قلیل مدت میں ایک ایسی ہستی کی پرستش کے والہانہ فدائی بن گئے ہیں جو کہیں نظر

نہیں آتی اور حواس ظاہری سے کسی طرح محسوس نہیں کی جاسکتی۔ اس کا فہم اس عقدہ کو حل کرنے سے جواب دے رہا ہے کہ جانگلو عربوں کی عادات میں بیس سال کے اندر اندر کس طرح یہ حیرت انگیز انقلاب رونما ہو گیا کہ اب وہ کسی دوسری اور اچھی دنیا کے باشندے نظر آنے لگے۔ جن کی نظیر روئے زمین پر کہیں نہیں ملتی۔

آخر اُس نے اپنے بیس سال پیشتر کے میزبان قریشی شیخ سے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، دریافت کر ہی لیا کہ ”عربوں کی عیش پرستیاں کیا ہوئیں اور عکاظ کے میلہ کی وہ رونقیں جن کے برابر روئے زمین کے کسی خطہ کی چہل پہل نہیں پہنچتی تھی، کہاں گئیں وہ عورتیں اور شرابیں جو عکاظ کے میلہ کی خصوصیات سے تھیں کہ ہراڑ گئیں اور وہ مرد جو اُن سے آزاد نہ تمتع حاصل کیا کرتے تھے کس ملک کی طرف کوچ کر گئے؟“

شیخ نے جواب دیا: ”میرے دوست! آپ کا تحیر و تعجب بجا ہے۔ اب وہ وحشی عرب نہیں رہے، جن کی پدمستیوں اور بد کرداریوں کے کھلم کھلا مظاہرے آپ نے آج سے بیس سال پیشتر اسی مقام پر دیکھے تھے۔ اس وقت ہم حیوانوں سے بدتر تھے۔ ہادئی برحق کی بست و سہ سالہ تعلیم نے ہمیں انسان بنا دیا اور ہماری روحوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ اب ہم فواحش و لغویات سے طبعاً متنفر ہو چکے ہیں۔ ہر قسم کی سیہ کاریاں ہبل اور اس کے دوسرے شرکاء کے ساتھ غائب ہو گئیں۔ اب ہمارے دلوں پر اُس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے جلال کا پر تو نور افشاں ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی، جو ارض و سما کی ہر شے کا مالک و مختار ہے۔ ہم اپنے دادا ابراہیم کے دین کو فراموش کر چکے تھے۔ جس نے خدائے واحد کی عبادت کے لئے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے جو اللہ کے رسول بن کر ہم



میں مبعوث ہوئے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ ہم شراب پیتے، مردار کھاتے، جُوا کھیلتے، تیروں سے فالیں نکالتے، آپس میں لڑتے، ایک دوسرے کا حق غصب کرتے اور حیوانوں کی طرح شہواتِ نفسانی کے پیچھے بھٹک بھٹک کر خراب ہوا کرتے تھے اور ہماری زندگی حیوانوں کی طرح بے مقصد و بے مدعا گزر رہی تھی۔ خدا کے رسول نے ہمیں بد کرداریوں پر ٹوکا۔ ہمیں اُن کے بڑے نتائج سے آگاہ کیا علم و حکمت کی تعلیم دی۔ ہماری روحوں کو پاک کیا۔ ہم انسان بلکہ شرفِ انسانیت کے علمبردار بن گئے۔ ہم نے اس راز کو پالیا جس سے نوعِ انسانی آج تک محروم رہ گئی تھی۔ بعد المہمات کے حالات جو انسانوں کو خائف اور پریشان رکھتے ہیں ہم پر آئینہ کی طرح روشن ہو گئے۔ اور ہم نے سمجھ لیا کہ کون سے دائمی مستقر کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا ہمارا فرض ہے اور کس مقصد کے حصول کے لئے انسان کو جینا اور مرنا چاہئے۔ ہادئی برحق کی تعلیم کا سب سے پہلا صلہ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہماری جانیں اور ہماری آبروئیں محفوظ و مصون ہو گئیں۔ وحشی عرب علم حاصل کر کے اس قابل بن گئے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں، ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں اور مصیبت آنے پر ایک دوسرے کی امداد کرتے رہیں۔ خدا کے رسول نے ہمیں ایک کتاب دی ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے، ارفع و اعلیٰ کرنے اور خالق اکبر کی رضا حاصل کرنے کے پورے پورے طریق بیان کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی آیات جو ہماری زبانوں پر جاری ہیں ہمارے دلوں کو منور کر رہی ہیں۔ ہماری سیرتوں کو بہتر بنا رہی ہیں اور ہمیں انفرادی و اجتماعی حیثیت سے روز بروز خدا سے قریب تر لے جا رہی ہیں۔“

عجمی تاجر: ”تمہارے پیغمبر وہی محمد ہاشمی ہیں۔ جن کے متعلق میں نے

بیس سال قبل تمہاری زبان سے یہ سنا تھا کہ انہوں نے دیوتاؤں کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے اور عربوں کو ایک نئے طریق عبادت کی تلقین کر رہے ہیں۔“

قریشی شیخ: ”ہاں! ہمارے آقا و مولا، سرور کونین بادشاہ دو جہاں رحمتہ للعالمین وہی محمدؐ ہیں۔ جن پر میری اور میرے ماں باپ کی جانیں فدا ہیں۔ جن کی رسالت کو ہم نے اپنی اور نوع بشر کی خوش بختی کے لئے پہچان لیا اور تسلیم کر لیا ہے۔“

عجمی تاجر: ”لیکن جس بات پر مجھے بار بار حیرت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہبل اور دوسرے دیوتاؤں کے پجاریوں نے اس قدر قلیل مدت میں کس طرح ان کی بات مان لی اور بنی اسرائیل کی طرح ان کا مقابلہ نہ کیا۔“

قریشی شیخ: ”ہمارے اشقیانے انہیں سخت سے سخت اذیتیں دیں، ان کے پیغام کی ہنسی اڑائی۔ ان کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی۔ ہمارے سرداروں نے ہر طریق سے ڈرایا دھمکایا اور دنیوی جاہ و جلال کا لالچ دلایا اور اس حد تک ستایا کہ انہیں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ مدینہ میں ان کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ہمارے اشقیانے وہاں بھی انہیں چین نہیں لینے دیا بلکہ ان کے ساتھ جنگیں کیں۔ انہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے سے روکا لیکن حق و صداقت کی جمعیت زیادہ ہوتی چلی گئی اور وہ وقت آگیا جب تمام کے تمام عرب قبائل نے اس دین حقہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور سب کے سب محمدؐ عربی کا کلمہ پڑھنے لگے۔“

عجمی تاجر: ”ایسے حیرت انگیز انسان کی زیارت سے محروم رہنا اور اس کے دین کی پیروی نہ کرنا انتہا درجہ کی بد بختی ہے۔ میں بھی محمدؐ کے خدا پر ایمان لا کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ مجھے موت سے پیشتر مشرف باسلام ہو

کر سعادت دارین حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میں ضرور اللہ کے اس رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف قدم بوسی حاصل کروں گا۔“

قریشی شیخ: حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امسال مدینہ سے حج کے لئے تشریف لائے ہیں اور اس مجمع میں بہ نفس نفیس تشریف فرما ہیں۔ میں کسی وقت آپ کو ان کی خدمت میں لے چلوں گا۔“

عجمی تاجر نے شکریہ ادا کیا اور قریشی شیخ سے اسلام کی صداقتوں کے بارہ میں مزید استفسارات کرتا رہا۔

مشرف باسلام ہونے کے بعد عجمی تاجر دین ہڈی کے طریق پر پہلی نماز گزار کر سویا تو اسے بڑا معنی خیز خواب نظر آیا:

اس نے دیکھا کہ ارض و سما پر رات کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں تیرہ و تار گھٹاؤں نے موجودات ارضی کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ظلمت اس قدر مہیب اور اس درجہ عمیق ہے کہ نگاہیں کام نہیں کرتیں۔ آسمان پر ستاروں کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا اور اس خوفناک تاریکی میں ہر طرف سے شور و فغان کی دل ہلا دینے والی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ درد سے کراہنے والے انسانوں کی لرزہ بر اندام کرنے والی پکاریں سنائی دے رہی ہیں۔ مشرق و مغرب کے لوگ دیوتاؤں کا نام لے لے کر مدد کے لئے بلا رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان کی چھت زمین پر گر کر ہر جاندار شے کو ہلاک کر دے گی اور سطح ارضی پر نہ تو کوئی بات کرنے والا انسان باقی رہ جائے گا اور نہ کوئی اور ریگنے والا جانور بچ سکے گا۔

یہ ایک خانہ کعبہ کی چھت پر سے نُور کے بادل اُٹھنے لگے جو ان تاریکیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آسمان پر پرواز کر رہے تھے۔ ان بادلوں سے برسنے والی شعاعوں نے موجوداتِ ارضی کو روشن کر دیا۔

دیکھتے دیکھتے نُور کے یہ بادل سارے عرب پر چھا گئے اور صاف نظر آنے لگا کہ اس سرزمین میں جدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے لوگ تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں اور اذانوں کی گونج نے فضائے ہوائی میں ایک عجیب اہتراز کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔

اُدھر آسمان پر نُور کے یہ بادل تیرہ و تار گھاٹوں کو چیرتے ہوئے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی طرف بڑھنے لگے۔ اُدھر زمین پر مومنین قانتیں کے لشکر ہر طرف یلغاریں کرتے ہوئے نظر آئے۔ جن کے آگے آگے صنم کدے منسار ہونے لگے، بادشاہوں کے تخت اُلٹنے لگے، غلام آزاد ہو گئے، رنج بر اُبھرنے لگے۔ مظلومین کو اپنا حق ملنے لگا اور ظالم کیفر کردار کو پہنچنے لگے۔

نُور کے بادلوں نے آہستہ آہستہ تمام روئے زمین کا احاطہ کر لیا۔ ظلمتیں چھٹ گئیں۔ راہیں صاف نظر آنے لگیں اور نوعِ بشر کی جمعیتیں اُس نُور سے کسبِ ضیا کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے لگیں۔

اب اُس نے دیکھا کہ کائنات کی مخفی قوتوں نے انسان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے، بجلیاں تابع فرمان ہو گئیں اور تمام عناصر قدرت انسان کے حکم پر چلنے لگے۔

اس وقت انسانوں کے ایک گروہ نے کہا کہ روئے زمین پر ہمارے جیسی طاقت و قوت رکھنے والا اور کوئی موجود نہیں موجوداتِ ارضی و سماوی کی تمام نعمتیں صرف ہمارے لئے ہیں۔ دوسرے انسانوں کو ان سے تمتع اندوز

ہونے کا کوئی حق نہیں۔ عناصر قدرت کا اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم جس طرح چاہیں گے زندگی بسر کریں گے اور اپنی شوکت و عظمت کے سوا کسی کے سامنے سر نیاز نہیں جھکائیں گے۔

پھر اُس نے دیکھا کہ زمین انسانوں کے ظلم و ستم سے پھر اسی طرح معمور ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ سطح ارضی پر خدائے ذوالجلال والا کرام کا نام لینے والا کوئی شخص باقی نہ رہا اور فضائے آسمانی پر پھر دھوئیں کی تیرہ و تار گھاؤں نے احاطہ کر لیا۔

اب پہاڑ روئی کی طرح اُڑنے لگے۔ زمین پیہم زلزلوں کے مارے شق ہوتی چلی گئی، آسمان میں دراڑیں پڑ گئیں، ستارے جھڑ جھڑ کر گرنے لگے، چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، سورج کی روشنی جاتی رہی اور زمین سانس لینے والے جانداروں سے یکسر خالی ہو گئی۔

ایک زمانہ گزر جانے کے بعد زمین پر موسلا دھار بارشیں برسنے لگیں اور نوعِ انسانی کے تمام افراد از سر نو زندہ ہو گئے۔

اس نے دیکھا کہ انسانوں کی لاتعداد جمعیتیں محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگیں اور اس فضا کے عوالم میں جا کر آباد ہونے لگیں جو نظام شمسی سے دُور دراز واقع ہوئی ہے اور جہاں کی زندگی صلح و سلام، راحت و آرام اور پاکیزگی و نفاست سے لبریز ہے۔ زمین سے آسمان تک ایک بہت بڑی شاہراہ بن گئی ہے جس پر خدا کو ماننے انسانوں کی جماعتیں اپنے اعمالِ صالحہ کے پَر لگا کر اُڑ رہی ہیں اور نافرمان انسانوں کے اژدہام کثیر کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں کیونکہ ان میں اُوپر کی طرف پرواز کرنے کی صلاحیتیں موجود نہیں۔

بوڑھے عجمی نے کہا کہ نوعِ بشر کے لئے راہِ نجات یہی ہے جو محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے جو اس راہ سے منہ موڑے گا وہ عالم سفلی کی مصیبتوں میں مبتلا رہے گا اور یہ مصیبتیں ابدالآباد تک زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اُس نے خواب ہی میں بلند آواز سے کہا۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ط

آنکھ کھلی تو کلمہ شہادت اُس کی زبان پر جاری تھا، وہ اٹھا اور باوضو ہو کر بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہو گیا۔



